

تذکرہ پادشاهان



مکتبہ قادریہ لاہور

سید محمد صالح فروری رحمہ اللہ تعالیٰ
ترجمہ: محمد عبد الباقی شرف

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

زندہ جاوید و سبزیں



سید محمد صالح فروری رحمہ اللہ تعالیٰ
ترجمہ، محمد عبید الحکیم شرف

مکتبہ قادریہ لاہور

زندہ جاوید حوہ بوہیں

شیخ طریقت سید محمد صالح فرورز جہا اللہ تعالیٰ (دشوق)

ترجمہ: محمد عبید الحکیم شرف قادری نقشبندی

مکتبہ قادریہ
جامعہ نظامیہ رضویہ
اندرون لوہاری روازہ لاہور

Click

| | |
|---|--------------|
| من نفعات الخلود | کتاب |
| زندہ جاوید خوشبوئیں | ترجمہ |
| شیخ سید محمد صالح فرفور رحمہ اللہ تعالیٰ (دمشق) | تالیف |
| محمد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی | مترجم |
| مفکر اسلام سید ریاض حسین شاہ صاحب | کلمات تقدیم |
| ممتاز احمد سیدی | مثالی شخصیات |
| ورڈ سائل کمپوزنگ پوائنٹ لاہور | کمپوزنگ |
| عارف علی قادری، عبدالقیوم چوہدری | آپریٹرز |
| مشاق احمد قادری | پروف ریڈنگ |
| حافظ محمد شاہد اقبال | صفحات |
| ۲۳۲ | اشاعت |
| ۱۳۱۳ھ / ۱۹۹۳ء | تعداد |
| ۱۱۰۰ | مطبع |
| ۱۱۰۰ | قیمت |

ملنے کا پتا

مکتبہ قادریہ، جامعہ نظامیہ رضویہ
اندرون لوہاری گیٹ لاہور پاکستان

Click

فہرست

| | | |
|-----|-------|---------------------------------------|
| ۵ | _____ | از مترجم |
| ۱۰ | _____ | اھدار از مؤلف |
| ۱۱ | _____ | کلمات تہذیب |
| ۲۰ | _____ | مثال تہذیب |
| ۲۲ | _____ | نہایت عہد ید محمد صالح فرفور حسنی |
| ۳۵ | _____ | پہلے اب بن کا مقدمہ |
| ۳۷ | _____ | تیسرے ایڈیشن کا مقدمہ |
| ۴۱ | _____ | فیضان رسالت |
| ۴۹ | _____ | نت صدیق اکبر |
| ۵۵ | _____ | اسلامی عدل |
| ۶۰ | _____ | سلطان العلماء |
| ۶۹ | _____ | پانچویں خلیفہ راشد |
| ۷۲ | _____ | اللہ تعالیٰ کی تلوار |
| ۷۸ | _____ | اقوام عالم کے قائدین |
| ۸۵ | _____ | نظام منصفی کی بالادستی |
| ۹۰ | _____ | امیر حمزہ بن عبدالمطلب |
| ۹۵ | _____ | صبح صادق کا اجالا اور وجد آفریں تلاوت |
| ۱۰۰ | _____ | معاف کرنے کی شاندار مثال |
| ۱۱۱ | _____ | نعرۂ حق |
| ۱۱۸ | _____ | حاتم طائی کی سخاوت |

<https://ataunnabi.blogspot.com/>

<http://t.me/Tehqiqat>

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ اَوْ نُنْصِلِيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

پاکستان، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر معرض وجود میں آنے والا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا۔ جس کا ایک بڑا حصہ عاقبت نا اندیش حکمرانوں اور سیاست دانوں کی غلط پالیسیوں اور دشمن کی فریب کاریوں کی بنا پر ہم سے الگ ہو گیا۔ ملک عزیز کا باقی ماندہ حصہ بھی ارباب سیاست کی باہمی رسہ کشی اور خلفشار کی زد میں ہے۔ بیرونی خطرات دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ہر درد مند پاکستانی کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ! ہمیں ایسا قائد عطا فرما جو پوری قوم کی اصلاح کرے۔ اسے متحد اور فعال بنا دے۔ اور ملک پاک کی سالمیت کی صحیح طور پر حفاظت کرے۔

ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں سب سے پہلے نظام تعلیم پر توجہ دی جاتی۔ ایسا نصاب تیار کیا جاتا جسے پڑھنے والے قوم کے نونہال، اسلام کے شیدائی اور سچے پاکستانی تیار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایمانی تعلق اتنا مضبوط ہوتا کہ وہ خود بھی اسلامی تعلیمات کے پیکر ہوتے۔ اور اجتماعی سطح پر اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے، جب تک کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہو جاتا۔

لیکن ہماری دانشگاہوں میں اول تو ایسا نصاب ہی رائج نہیں کیا گیا۔ پھر بہت سے ایسے اساتذہ مقرر کئے گئے جو اسلام اور پاکستان کے بارے میں خود بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں اور طلبہ کے ذہنوں کو بھی تشکیک کے ذریعے زہر آلود بنا رہے ہیں۔ آج کے بہت سے جدید

Click

تعلیم یافتہ افراد وہ ہیں جو نہ تو اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ ہیں اور نہ ہی تاریخ اسلام کے درخشندہ ماضی اور قابل صد فخر شخصیات کے جگمگاتے کردار سے واقف ہیں۔۔۔۔۔ انہیں تمام خوبیاں دوسری قوموں اور ان کے قائدین میں نظر آتی ہیں۔۔۔۔۔ اور اسلام، ہر خوبی اور ہر کمال سے تہی دامن نظر آتا ہے۔۔۔۔۔ ایسا کیوں ہے؟۔۔۔۔۔ اس لئے کہ انہیں اسلام اور تاریخ اسلام پڑھانے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔۔۔۔۔ اور خود بھی انہوں نے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔

حال ہی میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے ویمن ایکشن فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے:

”اسلام کا کوئی دور سنہری نہیں تھا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی لڑائیاں ہوئیں“ (روزنامہ پاکستان، لاہور شمارہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۲) یہ خیالات ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور علامہ اقبال کے لخت جگر کے، علامہ اقبال نے تو کہا تھا:

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ
سرم ہے میری آنکھ کا خاک مذینہ و نجف

اللہ اکبر! جو جلوہ باپ کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکا، اس نے بیٹے کی آنکھوں کو اس طرح چندھیا دیا کہ اسے تاریخ اسلام کے تمام ادوار تاریک دکھائی دیتے ہیں۔۔۔۔۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دوسرے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کا کیا حال ہو گا؟

زندہ جاوید خوشبوئیں

پیش نظر کتاب، دمشق، شام کے جلیل القدر راہنما اور اسلام کا سچا درد رکھنے والے عالم دین، علامہ شیخ محمد صالح فرفور کی کتاب من نفعات الخلود کا رواں دواں ترجمہ ہے۔۔۔۔۔ اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ مصنف کی اس طرح ترجمانی کی جائے کہ اس پر ترجمے کا گمان نہ ہو۔

یہ تو قارئین عی قائمیں گے کہ اس مقصد میں ترجمہ نگار کو کتنی کامیابی ہوئی ہے؟ ————— یہ کتاب قوم کے نونمالوں، طلباء اور طالبات کے لئے لکھی گئی ہے، تاکہ ان کے دل اور دماغ مغرب کی صنعتی، سائنسی، ایٹمی اور خلائی ترقی کو دیکھ کر مرعوب نہ ہوں ————— انہیں پتا چلے کہ ہمارا ماضی کس قدر تابندہ اور درخشاں ہے؟ ————— ہمارے اسلاف کتنی عظمتوں کے امین تھے؟ ————— انسان کی بنیادی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ ذرے کا سینہ چیر کر ایٹم تک رسائی حاصل کر لے ————— یا چاند اور مریخ کو مسخر کر لے ————— یہ تو اضافی خوبیاں ہیں، بنیادی خوبی یہ ہے کہ انسان صحیح عقائد اور اصول کا حامل ہو ————— اس میں سیرت و کردار کا نکھار ہو، حق کہنے، حق کو قبول کرنے، اور حق کی خاطر جان دینے کا حوصلہ ہو ————— صداقت و امانت کا پیکر ہو، کفر و شرک، ظلم و ستم، اور جمالت و افلاس کے خلاف نبرد آزما ہو ————— اور بلکتی سسکتی انسانیت کے دکھوں کا مداوا ہو ————— سیاروں پر کند ڈالنے والی وہ قوم کسی طرح بھی ترقی یافتہ کھلانے کی حق دار نہیں ہے جو فتنہ و فساد کی آماجگاہ ہو ————— جہاں کالے اور گورے میں فرق کیا جاتا ہو، جہاں آنکھوں میں حیا اور دل میں غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو ————— آئیے، ایک نظر اس کتاب پر ڈال لیجئے، پھر بتائیے کہ کیا ہم اپنے ماضی پر فخر کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں؟ ————— اور کیا ہم اپنے اسلاف سے رشتہ منقطع کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں؟

لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو

عربی سے اردو ترجمہ تک

چھ سات سال پہلے ایک افغانی عالم، غالباً ان کا نام عبدالعزیز تھا، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور میں تشریف لائے ————— راقم نے ان کے پاس من نفعات الخلود دیکھی اور ایک نظر دیکھتے ہی اس کا اسیر ہو گیا، تاریخ اسلام کی ایمان افروز، روح پرور،

اور ولولہ انگیز داستانیں ہیں۔۔۔۔۔ مسلمانوں کے قابل فخر صد ماضی کے جگمگ جگمگ واقعات ہیں۔۔۔۔۔ حاتم طائی کی سخاوت کا واقعہ دل کش پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، انداز بیان بڑا دلکش اور روح پرور ہے۔۔۔۔۔ اور مقصد اسلامی سپرٹ کو قارئین کے دلوں میں اجاگر کرنا ہے۔۔۔۔۔ افغانی عالم سے درخواست کی کہ یہ کتاب قیمتاً دیدیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔۔۔۔۔ راقم نے اس کی فوٹو سٹیٹ کاپی بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔۔۔۔۔ کچھ عرصے بعد علم دوست اور علم پرور، محب محترم سید عابد حسین شاہ (چو اسیدن شاہ) کو ریاض، سعودی عرب عریضہ ارسال کیا، کہ اگر ممکن ہو تو یہ کتاب فراہم کر دیں۔۔۔۔۔ انہوں نے ازراہ مہربانی کتاب دمشق سے منگوا کر مجھے ارسال کر دی۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

راقم نے وقتاً فوقتاً اس کے اجزاء کا ترجمہ کیا اور ماہنامہ ضیائے حرم لاہور دلیل راہ لاہور اور دعوت تنظیم الاسلام گوجرانوالہ کو بھجوایا۔۔۔۔۔ نہ صرف ان جرائد نے بلکہ ہندوستان کے بعض جرائد نے بھی ان اجزاء کو شائع کیا۔۔۔۔۔ چند ماہ قبل خیال ہوا کہ کیوں نہ ترجمہ کھل کر دیا جائے، الحمد للہ! ترجمہ کھل ہو گیا، جو ہدیہ قارئین ہے۔۔۔۔۔ مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے کلمات تقدیم تحریر فرمائے۔۔۔۔۔ ممتاز احمد سدید نے مثالی شخصیات کے عنوان سے پیش لفظ لکھا۔۔۔۔۔ استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی، ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و شیخوپورہ اور مولانا محمد منشا تابش قصوری نے نہ صرف حوصلہ افزائی کی، بلکہ مفید مشوروں سے نوازا۔۔۔۔۔ حافظ محمد شاہد اقبال نے پروف ریڈنگ کی۔۔۔۔۔ اور جناب رضاء الدین صدیقی، مدیر ماہنامہ ضیائے حرم نے ٹائٹل کے لئے ڈیزائن عنایت کیا۔

کتاب کا ترجمہ کھل ہو گیا، تو کیپوزنگ بھی شروع ہو گئی۔۔۔۔۔ لیکن کوشش بسیار کے باوجود حضرت مصنف کے حالات زندگی دستیاب نہ ہوئے۔۔۔۔۔ اسی فکر میں سرگرداں تھا کہ ایک دن ادب عربی کے مایہ ناز سکا لارڈ اکر ظہور احمد اظہر صاحب، استاذ شعبہ عربی، پنجاب یونیورسٹی سے ملاقات ہو گئی۔۔۔۔۔ ان سے اپنی مشکل بیان

کی تو انہوں نے بتایا کہ کراچی کے ایک دارالعلوم میں فرفور خاندان کے ایک استاذ پڑھاتے ہیں ان سے رابطہ کرو — راقم نے اپنے عزیز دوست اور جدید عربی کے ماہر، فاضل مولانا نور احمد شاہتاز کو عریضہ ارسال کیا — چند دنوں کے بعد ان کی طرف سے ایک پیکٹ ملا جس میں دو کتابوں کی فوٹو سیٹ کاپاں تھیں۔

- الدرالمشور: از حضرت علامہ سید محمد صالح فرفور، صفحات ۲۰۳
- الزاہر: تذکرہ علامہ سید محمد صالح فرفور، از ڈاکٹر محمد عبداللطیف فرفور، صفحات ۳۳۵

سچی بات یہ ہے کہ علامہ شاہتاز نے مجھے حیران کر دیا — اور یہ احساس دلا دیا کہ ابھی دنیا اخلاص کے پیکروں سے خالی نہیں ہوئی — حضرت مصنف کا مختصر تذکرہ آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے — یہ الزاہر ہی سے ماخوذ ہے۔

مشہور ادیب اور دانشور، محسن اہل سنت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب مدظلہ اپنے کئی مقالات میں جملوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی لیکرس کھینچ دیتے ہیں — جن سے عبارت کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے فقیر کے پاس نہ تو وہ پرواز فکر ہے اور نہ ہی زور قلم — تاہم راقم نے ان ہی کا انداز اختیار کیا ہے — اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے اور اس کتاب کو طلباء و طالبات کے لئے قائدہ مند بنائے۔

راقم کی خطباء حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس کتاب کا نہ صرف مطالعہ فرمائیں بلکہ اس کے مواد کو اپنی تقریروں کا موضوع بنائیں — تنظیم المدارس (اہل سنت) پاکستان اور انجمن طلباء اسلام کے قائدین سے بھی گزارش ہے کہ اس کتاب کو نصابی کتب میں شامل فرمائیں — تاکہ طلباء اور طالبات کی فکر، اسلامی رنگ میں رنگی جاسکے۔

۲۳ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۳ھ محمد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی
۱۹ دسمبر ۱۹۹۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِهْلَاء

○ ازل سے ابد تک تمام تعریفیں، کائنات کے پانچواں، اللہ رب العزت کے لیے۔

○ بے پایاں درود و سلام سرورِ دو عالم، رحمۃ للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔
○ اے اللہ! ہمارے دلوں کو نور ایمان اور عقول کو نور معرفت سے منور فرما۔

○ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔
○ ہمیں باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔
○ اے رب کریم! ہماری خطا اور بھول پر گرفت نہ فرما
○ اے خالق و مالک! تیری رحمت ہر شے کو محیط ہے، ہمیں بھی اپنی رحمت خاص کے دائرے میں داخل فرما۔
○ بے شک تو جو چاہے کرے۔

محمد صالح فرفور

صدر جمعیت الفتح الاسلامی

(دمشق - شام)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلمات تقدیم

کارگہ حیات میں ہر لمحہ عروج و زوال کے انقلابی دائرے سمیٹتے اور پھیلتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ مظاہر فطرت کی نوعاً نوعی ہر لحظہ جس حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لئے بے تاب رہتی ہے۔۔۔۔۔ ذرے جو ناقابل شکست و ریخت سمجھے جایا کرتے تھے ان کا کلیجہ پھٹ کر طاقت اور قوت کے سربستہ رازوں کو منکشف کر رہا ہے۔۔۔۔۔ نت نئی سے نئی حقیقتیں کھل رہی ہیں۔۔۔۔۔ لطافتوں کی کرن کرن روشنیاں، روحوں کی تہوں میں کھب رہی ہیں۔۔۔۔۔ ہر چیز تیز رفتاری کے لطیف مرکوزوں پر ایسی سرعت سے متحرک نظر آ رہی ہے۔۔۔۔۔ مادے حرارت بن رہے ہیں، اور حرارتیں مادوں میں ڈھل رہی ہیں

کوئی نکتہ ایسا نہیں، جسے رازدروں کما جاسکے۔۔۔۔۔ کوئی زاویہ ایسا نہیں، جس میں جھانکا نہ جاسکے۔۔۔۔۔ کوئی موقع ایسا نہیں، جس کی جستجو ممکن نہ ہو۔۔۔۔۔ اور کوئی افق ایسا نہیں، جس کے تغیر پذیر رنگوں سے پیغام نہ لیا جاسکے۔۔۔۔۔ ظاہر باطن ہو رہے ہیں، اور باطن ظاہر کا روپ دھار رہے ہیں۔۔۔۔۔ اول، آخر کو پانے کی فکر میں ہے۔۔۔۔۔ اور آخر اول کی دلہن پر سجدہ زن ہو رہا ہے۔

ایسے میں کبھی کبھی کوئی ذات اگر پردہ در پردہ۔۔۔۔۔ حجاب در حجاب پیچیدگیوں میں گم نظر آتی ہے۔۔۔۔۔ تو وہ محض حضرت انسان ہے۔۔۔۔۔ یہ کیا ہے؟۔۔۔۔۔ اسے کیا کہیے؟۔۔۔۔۔ یہ کون ہے؟۔۔۔۔۔ اس میں شر ہے یا خیر؟۔۔۔۔۔ یہ بندۂ عقل ہے یا پیکر عشق؟۔۔۔۔۔ اس کی حقیقت میں شعلہ، نار مستور ہے یا شرارۂ نور؟۔۔۔۔۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اسکی ذات سے رحمتوں کے سوتے پھوٹتے ہیں یا زحمتوں کے طوفان اٹھتے ہیں؟
— اسے ظالم و جہول کہا جائے یا عادل و مجبور؟ — اسکے ارادوں میں تسخیر و تقدیر کا جلوہ دیکھا جائے یا اس کے اعمال میں انقلاب کا مشاہدہ کیا جائے؟ — اسے شے غیر مذکور قرار دیا جائے یا وجہ تخلیق کائنات مانا جائے؟ — اس کی بو ترابیوں سے فانی ہونے کا سبق سیکھا جائے یا اس کے جاری فیض کو دیکھ کر باقی ہونے کی غرق مستیاں حاصل کی جائیں؟ — اس کے دیدوں کی چمک میں حق و حقیقت کا نور ڈھونڈا جائے یا اس کی بد اعمالیوں میں سرکشی کی تاریکیاں ٹوٹی جائیں؟ — اس کی فاسقانہ روش پر اسے ہم نشین شیطان کہا جائے یا اس کی نیاز مندوں پر اسے ہرکاب کرومیاں قرار دیا جائے؟ — انسان کیا ہے؟ — اور انسانیت کیا ہے؟ — بقول حکیمے کہنا ہو گا "اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے"

انسان کو اپنی حقیقت دیکھنے کے لئے ایک آئینہ نور چاہیے — جس میں وہ دیکھتا جائے اور بنتا جائے — دیکھتا جائے اور سنورتا جائے — دیکھتا جائے اور ترقی و ارتقاء کی منزلیں طے کرتا جائے — دیکھتا جائے اور معیار حسن کے مطابق ڈھلتا جائے — ہمدردی دیکھنی ہو تو ہمدردی کا آئینہ — ایثار ملاحظہ کرنا ہو تو ایثار کا آئینہ — معرفت جناد مقصود ہو تو جناد حق کا آئینہ — غریب پروری کا جائزہ لینا ہو تو غریب پروری کا آئینہ — ظاہر کے لئے ظاہر کے آئینے اور باطن کے لئے باطن کے آئینے۔

رہا یہ سوال کہ یہ آئینے کہاں تلاش کئے جائیں؟ — تو یاد رہے کہ انسانی محامد کا اعلیٰ ترین آئینہ جس میں معیار حسن قائم کیا جاسکے کوئی ایسا زندہ انسان ہی ہو سکتا ہے جس میں معیار حسن قائم کیا جاسکے — کوئی ایسا زندہ انسان ہی ہو سکتا ہے جس میں اَنَا مِرَاةٌ جَمَالِ

الحق ————— کا نور منعکس ہو رہا ہو ————— گویا زندہ و تابندہ ،
عظیم و جلیل اور روشن و تاباں شخصیتیں ہی ہوتی ہیں جن کی صحبتیں اور
توجہات کرم کی خوشبوئیں ، مشام ہستی کو معطر کر دیتی ہیں ————— ان کی
باتیں روشنی بانٹتی ہیں ————— ان کی دعوتیں بہار بندی کرتی ہیں —————
اور ان کی سیرتیں رحمتوں کی رت گر ہوتی ہیں ————— وہ تاریخ کے صفحوں
میں ایسے نظر آتے ہیں جیسے کوئی نور کے تڑکے میں دھیرے دھیرے جنت کی
طرف رواں دواں ہو ————— وہ روحوں میں ایسے اتر جاتے ہیں جیسے شبنم
شب تیرہ و تار کا کلیجہ چیر کر پھولوں کی پتیوں پر آ بیٹھتی ہو ————— انکی
مخفلیں جیسے کوئی ستاروں کی بزم میں جا بیٹھے ————— وہ بولیں نہ بھی تو ان
کا عمل انقلاب کے گیت گنگناتا ہے ————— وہ دیکھیں نہ بھی تو ان کے
ذہن سے اٹھنے والے تخیل زندگی کی گزر گاہوں میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں
————— وہ اس جہان فانی میں نظر نہ بھی آئیں تو ان کے مرقدوں کی مٹی
زندگی کی سوغات تقسیم کرتی ہے ————— ان کی گذریوں کی دھول میں
ہیروں کی چمک ہوتی ہے ————— ان کے فقر میں خسروی حکمتیں پنہا ہوتی
ہیں ————— اللہ اللہ ! یہ مستیاں اللہ اکبر ! فقر غیور کی یہ بے نیازیاں اللہ
اعظم ! سیرت و کردار کی یہ پاکیزگیاں ————— اس میں کیا شک ہے کہ ملک
سبا کے تخت کو چشم زدن میں ادھر سے ادھر کر دینے والے کسی انسان کو پیار
سے دیکھ لیں تو وہ کیا بنتا ہو گا ————— بنا ہو گا؟ لیکن ان کی چشم مازاغ کی
فراست و بصارت نے کیا کیا نہ بنایا؟

آج اگر کسی وجود میں نور و رحمت کے رنگ ملتے ہیں تو یہ انہی کی
نگاہوں کا صدقہ ہے ————— صدق حقیقت اور حقیقت صدق ہی ہے کہ یہی
نوازے گئے اور نوازنے والے انسانیت کا اصل سرمایہ ہیں —————
آدمیت اسی وقت تعمیر سیرت کی معراج حاصل کر گی جب اس کی منزل
مقصود ان زندہ و پابندہ شخصیتوں کے نقوش راہ بن جائیں گے —————

بھاری بھر کم افکار ذہن کی غذا ہوا کرتے ہیں اور زندہ شخصیتیں کردار سازی کیا کرتی ہیں۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ الہامی ہدایت کا یہ مسلمہ دستور ہے کہ توراہ ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔۔۔۔۔ انجیل ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑے گی۔۔۔۔۔ زبور زندگی کے تار چھیڑگی تو داؤد علیہ السلام کی روح گیر آواز کان میں پڑے گی۔۔۔۔۔ قرآن ہو گا، صاحب قرآن فرش تا عرش نور نوازیوں فرماتے دکھائی دیں گے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کا اصلی وظیفہ، حیات الفاظ و کلمات کا ورد نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ان شخصیتوں کی جستجو ہے، جن کی صحبت نظری، اطاعت عملی اور توجہ روحانی سے جاہ حق کا سراغ مل جاتا ہے۔۔۔۔۔ زندگی میں شاید سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ کہ کسی کیما نظر، جو اللہ نور، بیتاب عشق، بندۂ محبت، خوگر اخلاق، صاحب ادراک، معیار حق اور رشک بندگی شخص کی صحبت میسر آجائے۔

دم عارف نسیم مسجد ہے
اسی سے ریشہ، معنی میں نم ہے
اگر کوئی شعیب میسر آئے
شبانی سے کلیسی دو قدم ہے

بڑی مشہور حقیقت ہے کہ اللہ والوں کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یاد رہے کہ یہ محض باتیں نہیں ہوتی، جو رحمتوں کی گنگھور گھاؤں سے آب صدق و عمل کشید کر لیتی ہیں۔۔۔۔۔ بلکہ زندہ و متحرک سیرتوں کی گنگھاتی آبشاریں ہوتی ہیں جو رحمت بن کر گرتی ہیں۔۔۔۔۔ شخصیات کے قید و حدود جب لطافت کی جوئے مست میں نہا لیتی ہیں تو پھر شخصیتیں نہیں رہتیں۔۔۔۔۔ وہ نور کے پیکر بن جاتے ہیں۔۔۔۔۔ جن سے ہر لحظہ نور ہی کی تاباں کرنیں پھوٹی رہتی ہیں۔۔۔۔۔ خاک و خون اور قد و حد کی قید میں بند انسانوں کا اصلی عروج، ایسے ہی عظیم انسانوں کی دہلیز پر

اطاعت و خدمت کی حاضری دینا ہوتا ہے۔

مفکرین کے ہاں یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ مذہب اور دین وہ سرسبز و شاداب اور تازہ و پائیدار درخت ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جس کے اصول ثابت ہوں اور فروع متحرک ہوں۔۔۔۔۔ ایسی آئیڈیالوجی جس کے فروع میں لچک اور اقدار میں استقلال نہ ہو۔۔۔۔۔ زمانے کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔۔۔۔۔ ان تسلیم شدہ حقائق کے مطابق استقلال اور لچکدار قوانین کے حسین مرقعے الفاظ نہیں ہو سکتے۔۔۔۔۔ بلکہ شخصیتیں ہو سکتی ہیں۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی اقدار مستقل اور ثابت ہونے کے باوجود اپنے اثرات اور نتیجہ خیزیوں کے اعتبار سے مختلف اور متنوع ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جس دور میں تمدن اور تہذیب کے ان ثابت اور زبردست اصولوں کو توانا اور حرکی شخصیتیں میسر آتی ہیں تو ان کے اثرات بھی انقلابی دکھائی دیتے ہیں۔۔۔۔۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کردار سازی اور تغیر پذیر معاشروں میں تعمیری ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لئے سیرت اور سوانح کا مطالعہ و قیاس اثر رکھتا ہے۔۔۔۔۔ اور ان لوگوں کے تاریخی خاکے اور مرقعے بشریت کی تقدیر بدل سکتے ہیں جن کی زندگی کے خاکوں میں سیرت رسول اکرم نے نیا رنگ بھرا ہوا۔۔۔۔۔ اگر کوئی شخص دیانت سے اپنے آپ کو اٹھائے اور ان لوگوں کے درمیان جا کھڑا کرے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیار کئے ہیں۔۔۔۔۔ تو بلاشبہ وہ محسوس کریگا کہ وہ دنیا میں نہیں، جنت میں کھڑا ہے۔۔۔۔۔ اور اس کے دائیں، بائیں جو لوگ متحرک نظر آتے ہیں وہ انسان نہیں، فرشتے ہیں۔۔۔۔۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اعمال کے نتیجوں میں جو جنت آباد ہوگی وہ مابعد الدنیا ملے گی۔۔۔۔۔ اور کردار و سیرت سے جو جنت تیار ہوتی ہے اسے مدینہ اور مکہ کی محمدی تہذیب میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

انسانی معاشرت کیلئے بطور معیار ہمہ دم ایسے زندہ اور عظیم کرداروں

کی ضرورت رہتی ہے جن میں عبودیت کا شعور نہایت گہرا ہو۔۔۔۔۔ جیسے ایک غلام کے اندر اپنے آقا کی مرضی میں ڈھل جانا رچا بسا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ایسے ہی وہ انسان معاشروں کی جان ہوتے جن کے ہاں ہر قول اور ہر عمل پر حسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھاپ لگی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یہی وہ لائق تکریم ہستیاں ہوتی ہیں جو انسانی قافلوں کے حقیقی راہنما ہونے کا استحقاق رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ انہیں اگر ڈھونڈا جائے تو یہ علم کی مسندوں پر۔۔۔۔۔ ادب کے مرکزوں پر۔۔۔۔۔ ضرب و حرب کے میدانوں میں۔۔۔۔۔ قول و قانون کے بحث خانوں میں۔۔۔۔۔ کیف و حال کے زاویوں میں۔۔۔۔۔ قلم و قرطاس کے جہانوں میں۔۔۔۔۔ ہر جگہ مل سکتے ہیں۔۔۔۔۔ انہی سے زندہ افکار کی روشنی پھوٹی ہے۔۔۔۔۔ یہی تعمیر حیات کی خوشبوئیں بکھیرتی ہیں۔۔۔۔۔ انہی سے جنت بدارماں ماحول جنم لیتے ہیں۔۔۔۔۔ خود بھی مرد درخشاں کی طرح چمکتے ہیں۔۔۔۔۔ اور ان کی باتیں بھی ستاروں کی طرح جلمکاتی ہیں۔۔۔۔۔ یہ جب انسانی قافلوں کے دوش بدوش چل رہے ہوں، تو ایسے لگتا ہے جیسے انسانی دنیا پر چاند اور سورج محو گردش ہیں۔۔۔۔۔ اور جب یہ پردہ فرما لیتے ہیں، تو زمین آسمان بن جاتی ہے۔۔۔۔۔ ان کی قبریں اور آرام گاہیں بھی فیض بانٹی ہیں۔۔۔۔۔ پھر لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔۔۔۔۔ یاد رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کے قصے اور واقعات، سیرت گری اور کردار سازی کا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر تاریخ مرتب کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ کالم تخلیق کیے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کی عظمتوں کی خوشبو، حروف و الفاظ کی کلیوں میں پیٹ کر، ادب کے پھول اگائے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور پھر یہی ادب ہمیشہ رہنے والے گیتوں۔۔۔۔۔ ہمیشہ رہنے والے نغموں، اور جیتی جاگتی کتابوں کی صورت میں انسانی خدمت پر کمر بستہ رہتا ہے۔۔۔۔۔

گذشتہ دور میں مختلف زبانوں کے اندر اس نوعیت کی خدمت ہوتی

ری ہے ————— ابن سعد سے لیکر واقدی تک ————— غزالی سے لیکر
رازی تک ————— ابن رشد سے لیکر ابن حجر عسقلانی تک ————— ابن
کثیر سے لیکر احمد ابن حنبل تک ————— عبدالرحمن جامی سے —————
محدث دہلوی تک ————— ہر بزرگ، ہر ادیب، ہر قلم کار اور ہر محقق زندگی
کے صحراء سے ادب عالیہ کے موتی اکٹھے کرنے کے لئے زندہ انسانوں کا سراغ
لگانے میں مصروف عمل رہا ————— سوانحی خاکے تخلیق کیے گئے —————
بکھرے موتی یکجا کئے گئے ————— اقوال زریں سے بساط ادب کو رونق بخشی
گئی ————— جہان حسن و ادب کی ان پر جمال کاوشوں، اور حسن
افروز کاوشوں میں ایک کوشش علامہ فرفور کی ”من نفعات الخلود“ بھی ہے
”من نفعات الخلود“ عربی ادب کی ایک خوبصورت اور اثر و تاثیر سے
لبریز کتاب ہے ————— مصنف کی زبان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جاحظ اور
جمال الدین محمد بن مکرم اصفہانی کے وزن کا آدمی تھا ————— فرق اگر ہے تو
صرف اتنا کہ فرفور فقراء اور درویش کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص ہونے کے
ناٹے، اپنی تحقیق میں کوئی فضول چیز شامل نہیں ہونے دیتا ————— وہ اپنی
زبان کو حیا اور اسلامی تہذیب کے دائرے میں رکھتا ہے ————— اس کے
قلم کی نوک سے صرف وہ واقعات ٹپکتے ہیں، جن کا تعلق اسلامی اور روحانی
ترتیب سے ہوتا ہے ————— وہ بلا مقصد کوئی قول نقل نہیں کرتا —————
بلکہ یوں کہے کہ فرفور قلم کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ قلم اس کے پیچھے دوڑتا ہے
———— اور فرفور کی دوڑ ایک ہی منزل کی طرف ہوتی ہے ————— اور وہ
ہے حب رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ————— اس عظیم اور تقدیر
بدل منزل تک رسائی کے لئے وہ اکیلا نہیں دوڑتا، بلکہ پورے انسانی کارواں
کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے ————— یہیں سے فرفور کا کام تقدس کے
دائروں میں داخل ہو جاتا ہے ————— اور اس کی کتاب کا ہر لفظ موتیوں کی
طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔

محمد صالح فرفور کی فکر ایک مصلح کی ہے، وہ جانتا ہے کہ تحریکوں کی جان نوجوان ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اس لئے اس کی مخلصانہ کوششوں، اس کی بیتاب تحریروں اور اس کے حرارت مآب انشائیوں کا مرکز نوجوان ہی رہتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ انہیں اپنی آہ سحر سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔۔۔۔۔ اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان میں عقابِ روح کا ر فرما ہو جائے۔۔۔۔۔ بلاشبہ ”من نفعات الخلود“ کا ایک ایک لفظ ان جذبوں اور آہنگ میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے۔۔۔۔۔ عظیم مصنف کی یہ عظیم کتاب ایک سوستاسی صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ اس کی زبان عربی اور لہجہ آفاقی ہے۔۔۔۔۔ ضرورت تھی کہ فرفور کا پیغام اردو پڑھنے والے حلقہ میں بھی عام ہوتا۔۔۔۔۔ لاہور کے ایک مرد خدا مست کی اچھتی ہوئی نظر اس پر جا پڑی۔۔۔۔۔ اور وہ اس خزانہ کو لیکر گوشہ تنہائی میں جا بیٹھا۔۔۔۔۔ اور ”من نفعات الخلود“ کی زندہ خوشبو عربوں سے نکل کر اردو والوں میں بھی پھیلنے لگی۔

محمد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی محض عربی دان ہی نہیں، واقعیت شناس بھی ہیں۔۔۔۔۔ صرف ترجمان ہی نہیں، حقیقت آگاہ بھی ہیں۔۔۔۔۔ ان کا کوئی کام بھی درد کی گہرائی سے خالی نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ درسیات کی جاں گاہ مشق سے تھکا ماندہ عالم دین۔۔۔۔۔ حیرت ہوتی ہے کہ زندہ ذوق کی لذتوں سے بہرہ مند رہتا ہے۔۔۔۔۔ قاضی مبارک، سلم، صدرا اور شمس بازنہ کی روح کش تقریروں کے جلاپے اور تڑاتے بھی اس کی آنکھوں سے محبت کے آنسو خشک نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔ وہ روتا بھی ہے اور رولاتا بھی ہے۔۔۔۔۔ تڑپتا بھی ہے اور تڑپاتا بھی ہے۔۔۔۔۔ لکھنا اس کا دھندہ نہیں، درد ہے۔۔۔۔۔ وہ اپنے درد کے اظہار کے لئے اس کا قائل نہیں رہتا کہ اپنا ہی گیت سنا تا جائے۔۔۔۔۔ جب کوئی بیٹھا نغمہ کہیں سے بھی سنائی دیتا ہے۔۔۔۔۔ تو وہ اس کی سروں اور لہروں کو عام کرنے کا مشتاق بن جاتا ہے۔

”من نفعات الخلود“ محمد عبد الحکیم شرف قادری نقشبندی کی تصنیف نہیں
لیکن پسند ضرور ہے۔۔۔۔۔ کتاب کا انتخاب بذات خود مترجم کے
پاکیزہ ذوق پر شاہد عادل ہے۔۔۔۔۔ محمد عبد الحکیم شرف قادری چونکہ خود
سنے میں سمندر سے کھلا، اور بادلوں سے زیادہ فیاض دل رکھتے ہیں۔۔۔۔۔
ان کی زبان میں شیرینی۔۔۔۔۔ مزاج میں انکسار۔۔۔۔۔ طبیعت میں نیاز
مندی۔۔۔۔۔ پسند میں لطافت۔۔۔۔۔ سوچ میں نازک نگاہی۔۔۔۔۔
اخلاق میں وسعت۔۔۔۔۔ اور مہمان نوازی میں عربیت ہے۔۔۔۔۔ اس
لئے وہ اپنے ذوق کا سفر تحقیق و تصنیف میں بھی جاری رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ ”من
نفعات الخلود“ دراصل شرف بھائی کا خوبصورت صفاتی آئینہ ہے۔۔۔۔۔
آئینہ، جس میں آپ محمد عبد الحکیم شرف قادری کو چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔

البتہ! ایک بات بڑی عجیب ہے، محمد عبد الحکیم شرف قادری کی تاریخی
چھیڑ چھاڑ۔۔۔۔۔ اعتقادی بحث و کرید۔۔۔۔۔ نظریاتی آہنگ و تعلق
”من نفعات الخلود“ میں نظر نہیں آتا۔۔۔۔۔ اگر محمد عبد الحکیم شرف قادری
نے اپنے رشحات قلم اور نفعات تحقیق کا رخ ہمہ گیر انسانی عنوانات کی طرف
پھیر لیا۔۔۔۔۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ محققین کی اس صف میں بھی نمایاں
مقام حاصل کر لیں گے۔۔۔۔۔ جس میں غزالی اور حسن بصری قائد کی حیثیت
سے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔

دعا ہے اللہ جل مجدہ من نفعات الخلود“ کی خوشبوئیں عام فرمائے
۔۔۔۔۔ اور محمد عبد الحکیم شرف قادری سے دین مبین کی زیادہ سے زیادہ
خدمت لے۔۔۔۔۔ اور ان کی ہر سعی اور کوشش کو اپنے حبیب لیبیب صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔۔۔۔۔ آمین بجاہ سید المرسلین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

سید ریاض حسین شاہ

ڈائریکٹر ادارہ تعلیمات اسلامیہ

راولپنڈی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مثالی شخصیات

آج ہم جس دور سے گذر رہے ہیں، بلاشبہ وہ ٹیکنالوجی اور قلم و قرطاس کا دور ہے۔۔۔۔۔ ذرائع ابلاغ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ دوریاں سمٹ کے رہ گئیں ہیں۔۔۔۔۔ اس دور میں تو جنگیں بھی ذرائع ابلاغ کے بل بوتے پر جیتی جا رہی ہیں۔۔۔۔۔ بحیثیت مسلمان قوم، ہم جب اقوام عالم میں اپنے مقام کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو خود کو ہر میدان میں پیچھے ہی پاتے ہیں۔۔۔۔۔ جبکہ ہمارا ماضی تاریخ عالم کا ایک روشن باب ہے۔

لیکن عہد حاضر میں ہم پر تاریکیوں کے سائے ہیں۔۔۔۔۔ ہمارے آباؤ اجداد سے علم و حکمت کے موتی پانے والے، آج ہماری ہی آنکھیں چندھیا رہے ہیں۔۔۔۔۔ کل جو ہمارے اسلاف سے عصری علوم و فنون سیکھنے گئے تھے، آج ہم انہیں کے محتاج ہیں۔۔۔۔۔ مکہ، مدینہ، بغداد، قرطبہ اور قاہرہ علم و حکمت اور تکنیکی فنون کے مرکز رہے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن آج مسلمان ذہنوں کا شکار ہیں۔۔۔۔۔ آج علوم و فنون میں تو غیر مسلموں کی اجارہ داری ہے ہی، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ پر بھی غیروں ہی کا تسلط ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں کی خبریں بھی انہی ذرائع ابلاغ کے ذریعے پہنچتی ہیں۔۔۔۔۔ اور پھر ان ذرائع ابلاغ میں موجود فحاشی اور عریانی نے جہاں غیر مسلم معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔۔۔۔۔ وہیں مسلم دنیا کو بھی زبردست متاثر کیا ہے۔۔۔۔۔ نوجوان نسل کے لئے اخلاقی بے راہروی کے راستے کھول دئے ہیں۔۔۔۔۔ ہمارے ملکی ذرائع ابلاغ کو بھی عالمی ذرائع ابلاغ نے اپنے سیکولر سحر میں جکڑ رکھا ہے۔

ہمارے ہاں میڈیا پر غیر نظریاتی اور سیکولر ذہن کا قبضہ ہے۔۔۔۔۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

جس کی وجہ سے ”متاثرین مغرب“ کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے —
اور جو لوگ مغربی دنیا سے کچھ سرمایہ کما لاتے ہیں، تعلیم اور مغربی تربیت حاصل کر کے آتے ہیں — وطن عزیز کے لوگوں کو دیکھ کر ناک بھوس چڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام پسندوں کے لئے بنیاد پرست کا لیبل بھی لے کر آتے ہیں — آج جب مغربی دنیا اپنی معاشرتی زندگی کے تناؤ سے خود بھی بیزار ہے — ہمارے معاشرے کے نوجوان مغربی تہذیب کے دلدادہ کیوں ہیں؟ — فقط اس لئے کہ ہمارے قلمکاروں اور ذرائع ابلاغ کے ذمہ داروں نے نوجوانوں کو اسلاف کا شاندار ماضی یاد دلانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا — اور جوں جوں مغربی دنیا کی مادی ترقی بڑھتی جا رہی ہے — ہم مغربی تہذیب و تمدن کے اسیر ہوتے جا رہے ہیں — اور اپنی عظیم اسلامی ثقافت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔

آج نوجوان نسل کا آئیڈیل کہیں فلمسٹار ہے، تو کہیں کرکٹ سٹار — کہیں کسی فرقے کی شخصیات آئیڈیل ہیں، تو کہیں کسی جماعت کا بانی — اور کہیں سیاسی وابستگی مثالی شخصیت کا روپ دکھاتی ہے — غرضیکہ عہد حاضر کے باشعور لوگوں نے بھی فلمسٹار اور کرکٹ سٹار کے علاوہ سیاسی اور مذہبی و علاقائی شخصیات کے صنم کدے آباد کر رکھے ہیں — ان بتان مذہب و سیاست کو آنکھیں بند کر کے آئیڈیل قرار دیا جاتا ہے — مذہبی، سیاسی اور فلمی صنم پرستی کی اس دوڑ سے ہمارے مکار دشمن ہندو بننے نے بے پناہ فائدہ اٹھایا ہے — ہماری اسلامی ثقافت پر ضرب لگانے کے لئے، نہ صرف ہمارے ملک — بلکہ خلیج کی اسلامی کھلانے والی ریاستوں میں بھی اپنی فلموں کا جال بچھا رکھا ہے — اس طرح بڑے نظم و ضبط سے ہندوانہ تہذیب کا پرچار کرنے کے علاوہ فحاشی اور عریانی کے جراثیم پھیلانے جا رہے ہیں — جسے ہمارا مذہب اسلام دیگر تمام مذاہب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔

نوجوان نسل کے ہاتھوں ”گنڈاسہ“ فلموں نے موزر اور کلاشکوف
تھمادی۔۔۔۔۔ جبکہ کچھ دیگر ”مہربانوں“ نے جاسوسی، رومانوی ڈائجسٹوں
اور ناولوں کا تحفہ نوجوان نسل کو پیش کیا۔۔۔۔۔ مذہبی حوالے سے ایسی
کتابیں منظر عام پر آئی ہیں کہ فلاں جگہ جانا شرک ہے۔۔۔۔۔ فلاں طریقے
سے دعا مانگنا شرک۔۔۔۔۔ یہ شرک۔۔۔۔۔ وہ شرک۔۔۔۔۔ نوجوان
نسل کے اخلاق و مذہب پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے کیسے کیسے حملے ہو رہے ہیں؟
۔۔۔۔۔ ہماری نوجوان نسل ہم سب کی غفلتوں کے سبب مذہب سے دور
ہوتی جا رہی ہے۔

کلکتہ، یہود و ہنود ہماری شہ رگوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔۔۔۔۔
ہمارے گرد سازشوں کا حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ ایسا تو ہو گا اور ہوتا
رہے گا جب تک ہمارے قلمکار اپنی ذمہ داریوں سے عمدہ برا نہیں ہوتے
۔۔۔۔۔ ذرائع ابلاغ نظریاتی ہاتھوں میں نہیں دیئے جاتے اور نوجوانوں کو
عمد ماضی کے فخر روزگار علماء، دانشوروں، ادیبوں، طبیوں، سائنسدانوں اور
حکمرانوں سے متعارف نہیں کرایا جاتا۔۔۔۔۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ
جب تک ہم معلم انسانیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انسان
دوست شخصیت کی والہانہ محبت میں ڈوب نہیں جاتے۔۔۔۔۔ ہمارے
نوجوان یونہی بھٹکتے رہیں گے۔۔۔۔۔ مغرب کی مادی ترقی کو دیکھ کر
چندھیاتے رہیں گے۔۔۔۔۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال تعلیم کے سلسلے میں
انگلیڈ اور جرمنی میں مقیم رہے۔۔۔۔۔ وطن واپس آئے تو مغرب سے
مرعوبیت ساتھ نہ لائے۔۔۔۔۔ علامہ فرماتے ہیں۔

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

علامہ کی آنکھوں میں محبوب مجازی کی چمک دمک رچ بس چکی تھی۔۔۔۔۔
اسلاف کا تابناک ماضی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھلی کتاب تھا

— قوت ایمانی اپنی تمام تر عنایوں کے ساتھ جلوہ گر تھی —
اس لئے مغرب کی مادی ترقی اور چکا چوند روشنیاں ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنے
سے عاجز رہیں۔

آج ہم نے فرقہ واریت اور سیاست کی بنیاد پر شخصیت پرستی کے
سومناات تعمیر کر رکھے ہیں — ہماری تباہ حالی اور پسماندگی کا تقاضا ہے کہ
عظیم ترمیمی مفاد کی خاطر مسلکی اور سیاسی لات و منات پاش پاش کر دیئے
جائیں — نوجوان نسل کو اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ و آلہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار کر دیا جائے — صحابہ
کرام اور خلفاء راشدین کی مثالی شخصیتوں کو نمایاں کیا جائے — اور
مسلم امہ کا تائیناک ماضی نوجوان نسل کے سامنے اجاگر کیا جائے —
علماء دانشوروں اور سائنسدانوں کا گراندیور علمی ورثہ حقیقی وارثوں تک پہنچایا
جائے — ذرائع ابلاغ کو مثبت انداز میں بروئے کار لایا جائے
— اہل قلم کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے۔

ماضی کے زریں واقعات اور حقائق کے متعلق اصحاب رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جناب طالب ہاشمی کی کتب قابل ذکر ہیں
— جناب ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کی تصنیف طب نبوی اور جدید
سائنس نہایت اہم ہے — نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
چند جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کچھ مقالے ہمارے
حلقوں کی معزز ترین شخصیت جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب دام ظلہ
الکریم نے تصنیف کئے تھے — ان کا ایک ایذا لفظ عشق و مستی کی
کیفیت لئے ہوئے پڑھنے والے کو سوز و گداز کی کیفیت سے آشنا کرتا جاتا ہے
— اس کے علاوہ انہوں نے مسلم نوجوانوں میں ملی غیرت و ہمت اور
مقصدیت اجاگر کرنے کے لئے فکر شباب کے عنوان سے مقالہ سپرد قلم کیا
— خواتین کے لئے ایک مقالہ فکر بنات کے عنوان سے تحریر کیا

— ” فکر شباب ” کتابچے کی صورت میں الگ بھی چھپا ہے —
اور جن دوستوں نے پڑھا، بار بار پڑھا ہے — عالم اسلام کی معروف
ترین شخصیت رئیس القلم علامہ ارشد القادری کی شاہکار تصنیف زلف و زنجیر
جمالیاقی ادب کا شہ پارہ بھی ہے — اور مسلمانوں کے عہد ماضی کی
بہترین عکاس بھی — جسے پڑھ کر اسلاف کی عظمتوں کے چراغ روشن
ہو جاتے ہیں — اور مسلم امہ کے تابناک ماضی کی کرنیں دل و دماغ کو
منور کر جاتی ہیں۔

ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی، سعودی عرب کی عربی تصنیف **عَلِمُوا أَوْلَادَكُمْ**
مَحَبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ (اپنی اولاد کو محبت رسول کی تعلیم دیں) ایک اہم کتاب
ہے — اس کا ترجمہ محترم ڈاکٹر محمد مبارز ملک صاحب نے کر دیا ہے،
اس کتاب کا تعلق ایمان کی بنیاد (محبت رسول) سے ہے — اس لئے
اس کتاب کی طباعت کا بعض باخبر قارئین کو شدت سے انتظار ہے۔

”من نفعات الخلود“ (زندہ جاوید خوشبوئیں) جمعیت الفتح الاسلامی
دمشق کے صدر شیخ طریقت، حضرت شیخ محمد صالح فرفور کی تصنیف ہے
جسے پڑھنے سے ایک ولولہ تازہ ملتا ہے — جذبوں کو جوش و
خروش میسر آتا ہے — کیف و سرور میں ڈوبا ہوا قاری، خود کو معلم
انسانیت کی مجلس درس میں زانوئے تلمذتہ کئے ہوئے پاتا ہے — خود
کو خوش نصیب اصحاب صفہ میں پاتا ہے — عہد ماضی میں اسلام کی
بالادستی، اور فروغ علم کے سلسلے میں خدمات — اور ایسے ہی دیگر
واقعات سے قاری کو آگہی ملتی ہے اور اس کتاب سے ہمیں مثالی شخصیات کا
پتہ بھی ملتا ہے — جن کے نقش قدم پہ چل کر ہم آج بھی اقوام عالم
میں سر بلند ہو سکتے ہیں — اس کتاب میں ہمارے لئے یہ درس بھی
موجود ہے کہ مسلمان کا آئیڈیل کرکٹ سٹار، فلم سٹار، غیر مخلص مذہبی پیشوا، غیر
نظریاتی سیاستدان نہیں — بلکہ ہمارے لئے آئیڈیل اور مثالی شخصیت

معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام اور
خلفاء راشدین ہیں۔۔۔۔۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے

اَمْحَابِي كَالنَّجْمِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

میرے صحابہ (آسمان ہدایت کے) ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے
تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

”زندہ جاوید خوشبوئیں“ یہ وہ زندہ و جاوید خوشبوئیں ہیں جو اہل دل
کے مشام جاں کو مدتوں معطر رکھیں گی۔۔۔۔۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمان اپنے
غیر نظریاتی سیاست دانوں اور غیر مخلص مذہبی قائدین کے لات و ہبل بنا کر
پوجے جانے والے بتوں کو پاش پاش کر سکیں۔۔۔۔۔ اور اپنے دلوں کو
صرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم اور اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑ
کر، ان مثالی شخصیات کے نقش قدم پر چلیں۔۔۔۔۔ اور ان کی نور نور
سیرت کی روشنی میں اپنے کردار میں نکھار لاسکیں۔۔۔۔۔ اور نوجوان نسل
کو یہود و ہنود کے پنجے سے چھڑا سکیں۔۔۔۔۔ اور ان کی ثقافتی یلغار کا مقابلہ
کر کے اسلام دشمن عزائم کو ناکام بنا سکیں۔

ممتاز احمد سدید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علامۃ العصر سید محمد صالح فرفور حسنی قدس سر العزیز

۱۳۱۸ ————— ۱۴۰۷ھ

۱۹۰۱ ————— ۱۹۸۶ء

عالم اسلام کے نادر روزگار عالم، فقیہ جلیل، مرشد کبیر حضرت علامہ سید محمد صالح فرفور حسنی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ ابن سید عبداللہ فرفور ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۱ء دمشق کے محلہ عمارہ جوانیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت محبوب سبحانی سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا خاندان فرفور صدیوں تک ملک شام میں علمی و جاہت و سیادت کا حامل رہا۔ بارہویں صدی ہجری میں اس خاندان کا علمی جاہ و جلال جاتا رہا۔ یہاں تک کہ پندرہویں صدی ہجری میں علامہ سید محمد صالح فرفور پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دم قدم سے وہ علمی اور روحانی بہاریں لوٹا دیں۔

قرآن پاک کی تعلیم کے لئے شام کے استاذ القراء شیخ محمد سلیم حلوانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ ذوق و شوق اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ سات سال کی عمر میں قرآن کریم یاد کر لیا اور روایت حفص کے مطابق تجوید و قراءت پڑھی۔ پھر مدرسہ کاظمیہ عثمانیہ میں داخل ہوئے اور دو دو سال کا نصاب ایک ایک سال میں پڑھ کر اعلیٰ پوزیشن حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ والدین اور اساتذہ کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ ان کا سینہ دین متین، مسلم امہ اور عربی زبان کی محبت سے لبریز ہو گیا۔

امتیازی حیثیت کے ساتھ بی۔ اے پاس کرنے کے بعد ان کا ارادہ دمشق کے طبیبہ کالج میں داخلہ لینے کا تھا۔ والد ماجد سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا۔ خاندان فرفور کے اکابر کا تذکرہ لاؤ، جو شیخ محمد

جیل شہلی نے بنام الضیاء المولودنی اعلان بنی فرلور لکھا ہے —
سعادت مند بیٹے نے تذکرہ لا کر پیش کیا تو فرمایا: اسے پڑھو — فرزند
سعید نے پورا تذکرہ پڑھ ڈالا — جب ختم کر چکے تو دیکھا کہ والد
ماجد کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی بہ رہے ہیں — انہوں نے
سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز میں فرمایا:

”بیٹے! مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ارباب علم و فضل آباء
واجداد کے نقش قدم پر چلو گے — اور آج سے تم اپنی
تمام توانائی علم دین کے حاصل کرنے کے لئے صرف کر دو گے
— تاکہ تم آئندہ چل کر انبیاء کرام کے وارث بنو“

والد ماجد کے وصال کے بعد انہوں نے حسب وعدہ علماء کی مجالس
میں حاضری شروع کر دی — یہ وہ دور تھا کہ جنگ عظیم نے اہل
شام کی معاشی اور اقتصادی حالت تباہ کر دی تھی — اس معاشی
زیوں حالی سے سید محمد صالح فرفور بھی محفوظ نہ رہے — بامر مجبوری
انہوں نے بڑھئی کی دوکان کھول لی — رات کو چراغ کی روشنی میں
ادب عربی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے، اور نظم و نثر کا ذخیرہ اپنے وسیع حافظے
میں محفوظ کرتے رہے — موقع ملنے پر علماء، اوباء اور صوفیاء کی
مخقلوں میں حاضر ہو کر استفادہ کرتے رہے — تصوف اور روحانیت
میں شیخ عبدالرحمن خطیب، ان کے بھائی شیخ محمد ہاشم خطیب اور خاص طور پر
محدث جلیل شیخ سید محمد بدرالدین حسنی وحمہم اللہ تعالیٰ سے استفادہ کیا
— انہوں نے اپنے شیخ بدرالدین حسنی سے پوچھا کہ آپ کی عمر اسی
سال سے زائد ہے، اس کے باوجود آپ کے تمام حواس صحیح سالم ہیں، اس
کی کیا وجہ ہے؟ — شیخ نے فرمایا: ہم نے جوانی میں اپنے جسم کی
حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ہمارے جسم کی حفاظت فرمائی ہے۔

علامہ فرفور نے سب سے زیادہ استفادہ حضرت سید محمد بدرالدین
حسنی سے کیا — شیخ کامل نے اپنے شاگرد کی آنکھوں میں ذکاوت کی

چمک اور پیشانی میں سعادت کے آثار دیکھے تو ان کی دلچسپی اتنی بڑھی کہ خود ان کی دوکان پر آنا جانا شروع کر دیا۔ اور ان کے شوق علم کو عشق کی حد تک بڑھا دیا۔ چنانچہ علامہ نے ان سے صرف 'نحو' بلاغت، عروض، فلسفہ، علم اسطرلاب، میقات اور ریاضی پڑھی۔ علم میراث، علوم حدیث و تفسیر، اصول حدیث و تفسیر، علم توحید وغیرہ علوم پڑھے، یہاں تک کہ استاذ گرامی کا وصال ۱۳۵۴ھ / ۱۹۳۵ء میں ہو گیا۔ ان کے علاوہ محدث شام، شیخ صالح اسعد حمصی (م ۱۳۶۲ھ / ۱۹۴۳ء) سے فقہ حنفی، اصول فقہ، تصوف، علم کلام وغیرہ علوم پڑھے۔ پھر جامع معقول و منقول علامہ عبدالباقی ہندی متوفی ۱۳۶۳ھ / ۱۹۴۵ء (مقیم مدینہ منورہ) سے علمی استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنی تمام مرویات کی سند بھی عنایت کی۔ ان کے علاوہ شیخ محمد علی مالکی مغربی، مکہ معظمہ (م ۱۳۶۷ھ) علامہ عبدالقادر شلبی طرابلسی، مدینہ منورہ (م ۱۳۶۹ھ) علامہ عمر حمدانی محری (م ۱۳۶۸ھ) علامہ علی اعظم علامہ عبدالقادر قصاب (م ۱۳۶۰ھ / ۱۹۴۱ء) سے بھی فیض یاب ہوئے۔ علم فلکیات اور علم میقات علامہ شیخ محمد ساعاتی فلکی سے پڑھا۔ ان کے علاوہ بہت سے فضلاء وقت کی خدمت میں حاضر ہو کر مستفید ہوئے۔ غرض یہ کہ تنگدستی کے عالم میں علوم کے حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، بہت بڑا کتب خانہ بھی قائم کر لیا اور عبادت و ریاضت، شب بیداری کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اساتذہ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد مختلف مساجد میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ میں مستقل طور پر عوام و خواص کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان عموماً تفسیر اور حدیث کا درس دیتے۔ محلہ قیمریہ کی جامع مدرسہ نعتی میں مختلف علوم پڑھاتے۔ ہفتے میں دو دن تصوف کا درس دیتے۔ پیر کے دن عشاء کے بعد رسالہ قشیرہ

اور جمعہ کے دن فجر کے بعد امام غزالی کی تصنیف احیاء العلوم کا درس دیتے ——— شیخ کی پرکشش اور محبت سے لبریز شخصیت نے ذہین طلبہ کی خاصی بڑی جماعت اپنے گرد جمع کر لی ——— ان کے دلوں میں علم کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرویا ——— اور انہیں وہ سب کچھ پڑھا دیا جو ذاتی مطالعہ اور اساتذہ کی عنایات سے حاصل کیا تھا ——— ان کی خصوصیت یہ تھی کہ طلبہ کو صرف مروج علوم ہی نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ ان میں اسلامی اور روحانی روح بھی پھونک دیتے تھے ——— طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اصحاب ثروت احباب کے تعاون سے ۱۹۵۶ء میں دمشق میں جمعیت الفتح الاسلامی قائم کی ——— اور اس کے زیر انتظام ۱۹۵۹ء میں معہد جمعیت الفتح الاسلامی، طلباء کے لئے اور اس کے بعد طالبات کے لئے معہد الفتح الاسلامی کے نام سے مدرسہ قائم کیا۔

دمشق میں تدریس کا آغاز کرنے سے پہلے مفتی لبنان، شیخ توفیق خالد کی دعوت پر بیروت کے کلیہ شرعیہ میں بھی پڑھاتے رہے ——— ہفتے میں تین چار دن بیروت میں رہتے، پھر دمشق آجاتے ——— اس دور میں بیروت کے بہت سے ادباء، خطباء اور مدرسین نے آپ سے سند فراغت حاصل کی ——— بیروت، ترکی اور دمشق کے گوشے گوشے میں حضرت شیخ کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ ادب عربی، علم بلاغت، اصول نحو پر کامل دسترس رکھتے تھے ——— انہیں دور جاہلی، ابتداء اسلام، اموی اور آغاز دور عباسی کے شعراء کے ہزاروں اشعار یاد تھے ——— فلسفہ، علوم عقلیہ، اصول فقہ، تفسیر، اسرار قرآن وغیرہ علوم پر وسیع نظر رکھتے تھے ——— تدریس، خطابت اور رشد و ہدایت میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔

حضرت شیخ ائمہ اربعہ کی فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر، علوم القرآن، عقائد، تصوف، منطق، فلسفہ، صرف، نحو، عروض، ادب، بلاغت، غرض یہ کہ اس وقت کے رائج تمام علوم و فنون پڑھاتے تھے۔

حضرت شیخ نے اپنے لخت جگر شیخ محمد عبداللطیف کو تقریباً تیس سال کی تعلیم اور تربیت کے بعد سند اجازت و خلافت عطا فرمائی — اس میں تحریر کیا کہ میں انہیں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ اور اذکار و اوراد کی اجازت دیتا ہوں جو مجھے اپنے اساتذہ سے حاصل ہوئے ہیں — اور علماء کے نزدیک طے شدہ شرائط کے مطابق سلسلہ شاذلیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور خلوتیہ کی اجازت دیتا ہوں — اسی سند میں اپنے فرزند ارجمند کو خصوصی نصیحت کرتے ہوئے چند ہدایات سے نوازتے ہیں۔

- اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور قول و فعل میں اخلاص سے کام لینا
- کسی فضیلت کا دعویٰ نہ کرنا اور مخلوق الہی کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا
- مقدور بھر اپنے علم پر عمل کرنا
- علم کے پھیلانے اور لوگوں کو سکھانے میں اپنی توانائی صرف کر دینا
- ہمیشہ تدریس، رشد و ہدایت اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے میں مصروف رہنا
- ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہنا کیونکہ ذکر دلوں کو چمکا دیتا ہے۔
- اپنے دل کو ماسوی اللہ سے خالی کر لینا، ارشاد ربانی ہے: جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، ہاں! جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔
- اقوال و افعال میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔
- اپنی نیتوں کو ہر آلودگی سے اس طرح پاک کر لینا کہ علام الغیوب راضی ہو جائے
- مخلوق خدا کے لئے خیر و برکت کا منبع ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تمہاری اقتدار کر لے، اس کے لئے بہترین راہنما بننا
- ہمیشہ علم کے سیکھنے اور سکھانے میں مصروف کوشش رہنا۔

○ اپنی خلوت و جلوت میں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا
حضرت شیخ نے ابتدائی زندگی میں تصنیف و تالیف کی طرف توجہ
نہیں کی — جب عمر شریف پچاس سال سے متجاوز ہوئی تو مصروفیات
کی زیادتی کے باوجود متعدد وقیع اور قیمتی کتابیں لکھیں
درجہ ذیل تصانیف ان کی یادگار ہیں۔

۱۔ الدر المنثور: علامہ محمد جمیل شطی کی تصنیف الضیاء الموفور فی

اعیان بنی فرلور کی شرح، فرفور خاندان کے آباؤ و اجداد کا تذکرہ

۲۔ سلسلۃ الخلود: یہ ادبی تصنیف ہے، تین اجزاء پر مشتمل ہے

(۱) النفعات پیش نظر کتاب سلسلۃ الخلود کی یہی جزء ہے (۲)

النسمات (۳) الرشحات

۳۔ النسمات: ان احادیث کا مجموعہ جن کی مسلمان عورت کو ضرورت

ہوتی ہے۔

۴۔ من مشکوة النبوة: اربعین، امام نووی کی مبسوط شرح

۵۔ المعلیث الاکبر الشیخ محمد بدر الدین الحسنی کما عرفته: استاذ

اور مرشد گرامی کا تذکرہ

۶۔ الرسالة الثالثة والحجته القاطعة: عقائد میں

یہ چھ تصانیف ۱۹۸۷ء تک چھپ چکی تھیں — ان کے

علاوہ چند تصانیف یہ ہیں۔

۷۔ شرح نور الابضاح: مدارس میں رائج فقہ حنفی کی مشہور کتاب کی مبسوط

شرح

۸۔ الدر المنثور: دوسرا ایڈیشن جو اضافوں اور تحقیق و تہذیب پر مشتمل

ہے

۹۔ ترجمہ للشیخ عبدالحکیم الافغان: تذکرہ

۱۰۔ آلام و آمال: شعری مجموعہ (دیوان)

۱۱۔ تراجم لمن عاصرهم من العلماء واجتمع بهم: ہم عصر علماء کا تذکرہ

۱۲- شرح رسالۃ الغنمی: فقہ حنفی

۱۳- رسالۃ احکام المسجد فی الاسلام: مسجد کے اسلامی احکام

۱۴- شرح الرسالۃ النافعۃ: توحید کے موضوع پر

اس کے علاوہ تقریباً تیس سال تک ان کے مقالات مختلف جرائد مثلاً التمدن الاسلامی الہدایہ اور الرابطنہ الاسلامیہ میں شائع ہوتے رہے

حضرت شیخ صفات کثیرہ کے جامع تھے، انہوں نے خوش خطی سید موسیٰ شلبی سے کشتی اور پہلوانی کی مختلف قسمیں استاذ صائب بک المؤید العظم سے حاصل کیں شمشیر زنی اور ڈھال سے بچاؤ کرنا سید ابویاسین قزمانی سے سیکھا بیک وقت دو تلواروں کے ساتھ پریکٹس کیا کرتے تھے

اسی طرح تیر اندازی، تیراکی، گھڑ سواری، گتکا بازی وغیرہ فنون میں نہ صرف ماہر تھے بلکہ اپنی اولاد اور شاگردوں کو بھی سکھاتے تھے ان کے نزدیک پسندیدہ ترین ورزش، طویل پیدل چلنا تھا مایوسی اور تنگ دلی ان کے قریب نہیں آتی تھی اور کوئی رکاوٹ ان کے مشن کی راہ میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی جرأت اور بیت عطا فرمائی تھی

ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران اس وقت کا سربراہ مملکت مسجد میں آگیا آپ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے بندۂ خدا! اللہ تعالیٰ سے ڈر پھر موقع کے مناسب قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہوئے پورا خطبہ اسے نصیحت کرنے میں صرف کر دیا نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ بری طرح رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا: اے ہمارے استاذ ہم کیا کریں؟

غنائے نفس کا یہ عالم تھا کہ سلاطین، امراء اور وزراء کے عطیات سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی ان کی طرف سے آنے والے تحفے تحائف مستحق طلبہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: ہم دینے والوں میں سے ہیں، لینے والوں میں سے نہیں ہیں۔

دشمن کی جمعیتہ العلماء کے بنیادی رکن تھے — اور
جمعیتہ رابطتہ العلماء کے ممتاز ممبر تھے — اپنی توانائیاں امت
مسلمہ کی بھلائی اور راہنمائی کے لئے صرف کرتے تھے — بڑے
متواضع اور حلیم تھے — لیکن کیا مجال کہ کوئی شخص ان کے سامنے
کسی کی غیبت کرتا، یا مخالف شریعت بات کہتا — کبھی کوئی شخص
بیان کرتا کہ آپ کے فلاں حاسد نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، تو
اسے فرماتے: بیٹے! ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، وہ ہمیں ہمارے عیبوں سے
آگاہ کرتے ہیں — اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے
— باقاعدہ تہجد ادا کرتے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے
اور خشیت الیہ کی بنا پر ان کی آنکھیں اشکبار رہتیں۔

فرانس کے خلاف تحریک انٹھی تو اس کے قائدین علماء کے ساتھ مل
کر باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا — اور شوق شہادت میں خطرناک
معرکوں میں کود گئے — ایک دفعہ خود بیان کیا کہ سترہ سے زیادہ
مرتبہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا ہوں — شام کی آزادی
کے بعد تازیت امت مسلمہ کی اصلاح اور اتحاد کے لئے قلمی اور لسانی جہاد
کرتے رہے۔

حضرت شیخ نے دو نکاح کئے — اللہ تعالیٰ نے انہیں آٹھ
بیٹے اور چار بیٹیاں عطا کیں — جن میں سے سات بیٹے اور تین
صاحبزادیاں ۱۹۸۷ء میں حیات تھیں — اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عظیم
احسان ہے کہ تمام اولاد علوم دینیہ اور اخلاق فائدہ سے موصوف ہے
— سب سے بڑے صاحبزادے سید ابوالخیر محمد عبداللطیف ہیں
— انہوں نے اپنے عظیم والد پر کئی کتابیں لکھی ہیں — اس
وقت ان کی تصنیف لطیف الزاھر فی العلث العاطر عن الوالد الفلخر
العلامہ العارف باللہ الشیخ محمد صالح فرلور الحسینی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلا
ایڈیشن (طبع ۱۹۸۷ء) راقم کے پیش نظر ہے — یہ تمام حالات

اسی کتاب سے لئے گئے ہیں ————— ان ہی کا بیان ہے کہ میں نے تین مرتبہ والد ماجد کے ساتھ حج و زیارت کی سعادت حاصل کی۔

حضرت شیخ اپنے دور کے اولیاء کاملین اور علماء و اسخین میں سے تھے ————— انہوں نے اپنی عمر عزیز کا بڑا حصہ تعلیم و تدریس، وعظ و ارشاد اور علمی مراکز کے قیام میں صرف کیا ————— انہوں نے اصحاب علم و فضل اور ارباب دعوت و ارشاد مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی جو آج بھی تبلیغ اسلام میں مصروف ہے ————— لوگ جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے علوم و معارف سے فیض حاصل کرتے ————— کئی قسم کے امراض اور عوارض لاحق ہونے اور عمر شریف کے اسی سال سے متجاوز ہونے کے باوجود ہر کسی سے خندہ پیشانی سے ملتے ————— اور وصال سے چند دن پہلے تک تدریس اور افادہ کا سلسلہ جاری رکھا ————— ان کے ہاں عوام و خواص کی کوئی تخصیص نہ تھی ————— وہ پڑھنے پڑھانے کو ہی اپنے لئے علاج اور شفا تصور کرتے تھے

حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں تدریس اور ذکر و فکر میں مشغول رہے ————— روحانیت کا اس قدر غلبہ ہوا کہ خواب توکیا بیداری میں اپنے مشائخ کی زیارت سے مشرف ہوتے ————— وصال سے پہلے بتا دیا تھا کہ میری زندگی تقریباً ایک سال باقی رہ گئی۔

۵ محرم، ۹ اکتوبر ۱۳۰۷ھ / ۱۹۸۶ء بروز منگل وہ وقت آگیا کہ مجاہد عظیم، مرشد کبیر، علامہ الشام، شیخ محمد صالح فرفور رحمہ اللہ تعالیٰ پچاسی سال کی عمر میں اس دار فانی سے رحلت فرما گئے ————— ان کے وصال سے پورا دمشق غمگین ہو گیا ————— ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی ————— اور عارف باللہ شیخ ارسلان رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کے پاس ان کی آخری آرامگاہ بنائی گئی۔

۹ شعبان المعظم ۱۳۱۳ھ

۲ فروری ۱۹۹۳ء

محمد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلے ایڈیشن کا مقدمہ

از حضرت مصنف علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے — اللہ تعالیٰ
رحمتیں نازل فرمائے؛ افضل ترین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن
پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ — اپنے
رب کے نام سے پڑھو — نیز آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔
میں نے ہر پڑھے لکھے آدمی کے مطالعہ کے لیے ایک ادبی اور
تاریخی کتاب کی ضرورت محسوس کی — جو عربوں کی تاریخ اور ان
کے انوکھے واقعات پر مشتمل ہو — اور ان کے دلوں میں ایثار و قربانی
کی روح کی بجلیاں پیدا ہوں — اور وہ بنیادی عقائد اور بہترین اخلاق
سے عشق کی حد تک پیار کرنے لگیں۔

میں نے اپنے پیکران مجد و شرف آباء و اجداد کے کچھ ورثے کے
رخ زیبا سے نقاب ہٹایا ہے — اور تاریخ و ادب کے خزانوں اور
زندہ خوشبوؤں کا کچھ حصہ نذر قارئین کیا ہے جس پر تاریخ کے صفحات گواہ
ہیں — تاکہ اگر ہمارے قدم برے اخلاق میں ملوث ہو کر نہک گئے
ہوں تو یہ بزرگ ہمارے لیے بہترین راہنما ثابت ہوں — ہم ان کے
پسندیدہ اخلاق اور ان کے دکھائے ہوئے صراط مستقیم کی طرف لوٹ آئیں
— اور ان کے مفید ورثے کو اپنی اخلاقی بیماریوں کے لیے موثر دوا
کے طور پر اختیار کریں — کیونکہ اس امت کے آخری حصے کی

اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس سے صدر اول کی اصلاح ہوئی ہے۔
میں نے اس کتاب میں کسی ایک زمانے یا کسی خطے کی بات نہیں کی
_____ اس میں وہ کچھ بیان کیا ہے جو عصر حاضر اور دور جدید کی ضرورت
کو پورا کرتا ہے _____ اس میں عربوں کے دلچسپ اور عجیب واقعات
قصدا بیان کئے ہیں _____ تاکہ قارئین بوریات محسوس نہ کریں اور ان کی
دلچسپی برقرار رہے _____ میں نے حاشیے میں عبارات کے مشکل الفاظ کی
مختصر شرح بھی کر دی ہے _____ تاکہ پڑھنے والوں کے لیے سمجھنا آسان
اور فائدہ مند بھی ہو۔

اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے کہ وہ خطاؤں کو درست فرمائے _____
ہمیں دولت اخلاص سے مالا مال فرمائے _____ ہمارے علم کو فائدہ بخش
_____ اور ہمارے عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے بنائے _____
ہماری اس کوشش کو تمام مسلمانوں کے لیے عموماً _____ اور عربوں کے
لیے خصوصاً سود مند بنائے _____ بے شک وہی کار خیر کا القاء کرنے والا
_____ اور توفیق مرحمت فرمانے والا ہے۔

تیسرے ایڈیشن کا مقدمہ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے — اور صلوة
وسلام ہو صاحب خلق عظیم، صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے —
اور انسانیت کو کفر و گمراہی سے نجات دلا کر، علم اور ہدایت کے نور کی
طرف لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر — اور آپ
کی آل پاک اور صحابہ کرام پر — جنہوں نے آپ کے نقش قدم کی
پیروی کی — اور آپ کے راستے پر چلے — نتیجہ یہ ہوا کہ
کائنات کے سربراہ اور اقوام عالم کے قائد بنے۔

یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ قوموں کو لافانی عظمت اس کے عظیم
رجال ہی کے ذریعے میسر آتی ہے — اور اقوام کی شوکت کا اندازہ
ان کے نامور افراد کے جلیل القدر مقامات ہی سے لگایا جا سکتا ہے
— کوئی بھی قوم اپنی تاریخ اور اپنے اکابر کے حالات زندگی سے بے
خبر رہ کر کامیابی و کامرانی کے زینے طے نہیں کر سکتی — یہی وجہ ہے
کہ اکابر کے تذکروں کے مطالعہ کی اہمیت، بنیادی نظریات اور افکار کے
مطالعہ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔

اس حقیقت کے علاوہ اس کتاب کی تالیف کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ میں نے مسلمان نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد کو دیکھا ہے کہ وہ تاریخ
اسلام کی فائدہ روزگار شخصیات کے مطالعہ سے عاری ہیں — انہیں
چاہی نہیں کہ ہمارے یکتائے زمانہ، عظیم المرتبت آباؤ اجداد کے کارنامے کیا

تیسرے ایڈیشن کا مقدمہ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے — اور صلوة
وسلام ہو صاحب خلق عظیم، صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے —
اور انسانیت کو کفر و گمراہی سے نجات دلا کر، علم اور ہدایت کے نور کی
طرف لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر — اور آپ
کی آل پاک اور صحابہ کرام پر — جنہوں نے آپ کے نقش قدم کی
پیروی کی — اور آپ کے راستے پر چلے — نتیجہ یہ ہوا کہ
کائنات کے سربراہ اور اقوام عالم کے قائد بنے۔

یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ قوموں کو لافانی عظمت اس کے عظیم
رجال ہی کے ذریعے میسر آتی ہے — اور اقوام کی شوکت کا اندازہ
ان کے نامور افراد کے جلیل القدر مقامات ہی سے لگایا جا سکتا ہے
— کوئی بھی قوم اپنی تاریخ اور اپنے اکابر کے حالات زندگی سے بے
خبر رہ کر کامیابی و کامرانی کے زینے طے نہیں کر سکتی — یہی وجہ ہے
کہ اکابر کے تذکروں کے مطالعہ کی اہمیت، بنیادی نظریات اور افکار کے
مطالعہ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔

اس حقیقت کے علاوہ اس کتاب کی تالیف کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ میں نے مسلمان نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد کو دیکھا ہے کہ وہ تاریخ
اسلام کی فائدہ روزگار شخصیات کے مطالعہ سے عاری ہیں — انہیں
چاہی نہیں کہ ہمارے یکتائے زمانہ، عظیم المرتبت آباؤ اجداد کے کارنامے کیا

ہیں؟ — وہ اس لیے فتنے میں واقع ہو گئے کہ انہوں نے دوسری قوموں کی تاریخیں پڑھیں — انہوں نے اغیار کے نامور افراد کو پڑھا — جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق، اور کوئی رابطہ ہی نہیں — نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوانوں کو دوسری قومیں عظیم دکھائی دینے لگیں — اور عظمتوں کی معراج پر قانز مسلمان قوم حقیر دکھائی دینے لگی — صرف یہی نہیں، بلکہ انہوں نے جمالت اور سرکشی کی بنا پر امت مسلمہ کے نقائص اور کوتاہیاں گنونا شروع کر دیا — اور الزام عائد کر دیا کہ یہ قوم تہذیب و تمدن میں بہت پیچھے رہ گئی ہے — مشہور مقولہ ہے کہ آدمی اس چیز کا دشمن ہوتا ہے، جسے نہیں جانتا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس امت کو مجدد شرف، رفعت و سر بلندی اور صحیح تہذیب کی وہ خصوصیات دی گئی ہیں جنہوں نے اسے تاریخ انسانیت کے طویل عرصے تک اقوام عالم کا رہبر و رہنما بنا دیا — ایسا کیوں ہوا؟ — وجہ یہ تھی کہ مختلف زمانوں اور ادوار میں ملت اسلامیہ کے عظیم الشان سپہوتوں نے وہ درخشندہ اور لازوال کارنامے انجام دیئے، جن کے تذکروں سے تاریخ کے صفحات جگمگا رہے ہیں — یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

”تم لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی امت سے بہتر ہو“

میں نے ملت اسلامیہ کی قیمتی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے، غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے افراد کے ان تابندہ کارناموں کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے لیے زندگی کی راہیں روشن کرتے ہیں — اور

ہمیں خیر، ترقی اور کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں۔۔۔۔۔ میں نے انہیں یکجا کر دیا۔۔۔۔۔ حواشی میں مشکل الفاظ کے معانی کی وضاحت کر دی ہے۔۔۔۔۔ ان واقعات کے چھپے ہوئے اسرار اور ان سے حاصل ہونے والی عبرتوں اور نصیحتوں کو طشت از بام کر دیا ہے۔۔۔۔۔ اس طرح یہ کتاب تیار ہو گئی۔۔۔۔۔ اور اس کا نام تجویز کیا من نفعات الخلود (زندہ جاوید خوشبوئیں)

کوشش یہ کی کہ الفاظ آسان اور تراکیب سلیس اور شستہ ہوں۔۔۔۔۔ تاکہ پڑھنے والوں کو سمجھنے میں آسانی رہے۔۔۔۔۔ قارئین کرام ان درخشاں اور قابل صد فخر کارناموں کے مطالعہ کے دوران واضح طور پر محسوس کریں گے کہ یہ واقعی زندہ خوشبوئیں ہیں۔۔۔۔۔ کیونکہ ان میں روحانی بلندی، مقاصد کی برتری اور فکر کی عبقریت سب کچھ موجود ہے۔

اگرچہ ہم ان عظمت مآب شخصیتوں سے جسمانی اور روحانی طور پر ملاقات نہیں کر سکے۔۔۔۔۔ لیکن اس کتاب میں ان کی سیرت اور زندہ و جاوید کارناموں کا مطالعہ تو کر ہی سکتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ لوگ اپنی عبقریت کی بنا پر لافانی ہیں۔۔۔۔۔ اور ان کی عظمتوں کے نقوش جریدہ عالم پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکے ہیں۔

یہ کتاب اس سے پہلے دو دفعہ چھپ چکی ہے۔۔۔۔۔ اور الحمد للہ! قبولیت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے۔۔۔۔۔ تیسرا ایڈیشن قارئین کرام کی خدمت میں حاضر ہے اس ایڈیشن میں مزید اصلاح اور تصحیح، نیز ضبط اور بہتری کی کوشش کی گئی ہے۔۔۔۔۔ علاوہ ازیں آیات کریمہ

اور احادیث نبویہ کے حوالے بھی دے دیئے ہیں — تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور وقت نظری میں معاون ہو۔

عظیم ترین ہستی اللہ کریم جل شانہ سے دعا ہے — اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے درخواست ہے — کہ میری اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے — اہل ایمان کو اس سے نفع عطا فرمائے — اور اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے بنائے — تاکہ میں اس کی بارگاہ میں پیکر اخلاص جماعت میں شامل کیا جاؤں

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا

مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

”جس دن نہ مال کام آئے نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا“ سلامتی والا دل لے کر“

۲۵ / رمضان المبارک ۱۳۹۹ھ

مؤلف (دمشق)

۱- القرآن، ال عمران، ۳ / ۱۱۰

۲- القرآن، الشعراء، ۸۹ - ۸۸

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فیضانِ رسالت

جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی

ایک مجاہد کی داستان جرأت و استقامت جو درستہ الرسول صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مستنیر تھا۔

مسلم مجاہدین کا طریقہ تھا کہ یہ دشمنوں کے علاقوں کو رزمگاہ بناتے تھے
— ان کی جنگی سپرٹ کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں پسپا ہونا جانتے ہی نہ
تھے — بلکہ دشمن پر اتنا دباؤ ڈالتے کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے
— اور اپنے خزانوں اور عورتوں کو بطور مال غنیمت چھوڑ جاتے —
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روم کی جانب روانہ
کیا — ان میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمیؓ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا — جنگ میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک فریق کا
پلڑا بھاری، کبھی دوسرے فریق کا — اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ صحابی
دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے — اور انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔

جب جنگ ختم ہو گئی، اور اس کی تپش سرد پڑ گئی تو انہیں زنجیروں میں
جکڑے ہوئے، شاہ روم ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا — بادشاہ نے اپنے
سامنے اعتماد سے بھرپور، بلند حوصلہ نوجوان کو دیکھا — جس کے چہرے پر
کوئی ایسی جھلک نہ تھی، جو بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والے قیدیوں کے
چہروں پر ہوا کرتی ہے — وہاں عاجزی، بزدلی اور احساس کمتری کا نام و
نشان تک نہ تھا — بادشاہ، سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے

صحابہ کی روحانی قوت و عظمت — دنیا سے بے نیازی اور ایمانی استقامت کے چرچے سن چکا تھا — جن کی بنا پر اسے صحابہ کرام کے دیکھنے کا شوق تھا — ایک نظر دیکھنے میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت عبداللہ کی دین سے محبت — ایمانی استقامت اور ساتھیوں کے لیے ایثار و قربانی کے معیار کو پرکھا جائے۔

بادشاہ نے پیش کش کی، عبداللہ! تم عیسائیت قبول کر لو — میں تمہیں اپنی حکومت میں شریک بناؤں گا، اور تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا — اس کا خیال تھا کہ میں بھاری قیمت ادا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شاگرد کا ضمیر خرید لوں گا — لیکن اس کا تیر نشانے پر نہ بیٹھ سکا — اور اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

حضرت عبداللہ نے آدھی بادشاہی، بلکہ دنیا بھر کی دولت کے عوض اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے سے انکار کر دیا — اور واقعی ایمان جس کی رگ و پے میں سرایت کر چکا ہو — اور جو شخص تمام دنیا کو پس پشت ڈال چکا ہو — وہ ہرگز اپنا دین و ایمان بیچنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔

انہوں نے سر کے اشارے سے نفی میں جواب دیا — یہ نفی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی نفی کا نتیجہ تھی — جس میں ہر معبود کی نفی کر کے ایک خدا کی تصدیق ہے — جو ہر شے پر قادر ہے — ہر شے کی چابی، اسی کے دست قدرت میں ہے — وہی عزت و ذلت دینے والا ہے — تمام بندوں کے دل اور چوٹیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں — وہ جدھر چاہتا اور پسند فرماتا ہے — پھیر دیتا ہے۔

بادشاہ نے جب ان کی عظمت نفس اور پاکیزہ و بلند روح کی ایک جھلک

دیکھی، تو وہ پیش کش کی بجائے دھمکی پر اتر آیا۔ اور حکم دیا کہ انہیں ایک بلند دیوار پر کھڑا کر کے سولی پر چڑھایا جائے۔ اور ان پر اس قدر تیر برسائے جائیں، کہ ان کی روح قفسِ عنصری کی طرف پرواز کر جائے۔ حضرت عبداللہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے۔ نہ زبان سے پریشانی کا کوئی جملہ نکلا، اور نہ دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک دل نواز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ان کے چہرے پر دائمی زندگی کی چمک جلوہ گر تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے محبوب کو بڑی محویت سے دیکھ رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ کے اطمینان و سکون اور ثابت قدمی کو دیکھ کر بادشاہ کا خون کھول اٹھا۔ اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں انہیں ایسا عذاب دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں دیا گیا۔

بادشاہ کے حکم پر بہت بڑے کڑھاؤ میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آلاؤ روشن کر دیا گیا۔ جب پانی خوب اچھی طرح کھول اٹھا تو ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا۔ اور اسے وہی پیش کش کی گئی، جو حضرت عبداللہ کو کی گئی تھی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں زندہ رہنے کی بجائے، راہِ خدا میں موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور آخرت میں جہنم کے بدلے دنیا کا جہنم قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ کا اشارہ ملتے ہی انہیں اٹھا کر کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، جب انہیں کڑھاؤ میں ڈالا گیا تو میں آنکھ کے کنارے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بخدا! چند لمحے گزرے ہوں گے کہ کڑھاؤ کے اوپر ان کی ہڈیاں تیرتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ باقی جسم پانی میں اس طرح حل ہو گیا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔

بادشاہ نے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا — اس کا خیال تھا کہ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل پارہ پارہ ہو چکا ہو گا — اور دوسرے لوگوں کی طرح موت کا خوف و ہراس انہیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہو گا۔

بادشاہ نے حضرت عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا — یا تو عسائیت اختیار کر لو یا کڑھاؤ میں اپنے بھائی کے پاس پہنچنے کے لیے تیار ہو جاؤ — لیکن ان کے عزم اور حوصلہ میں ذرہ برابر فرق نہ آیا — نہ ہی تردد دامن گیر ہوا — وہ پہاڑ کی چٹان کی طرح کھڑے تھے — خوف اور وہشت کی پرچھائیں تک، ان کے چہرے پر نہ تھی — بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھی کی طرح انہیں بھی اٹھا کر کڑھاؤ میں ڈال دیا جائے۔

جب انہیں کڑھاؤ کے قریب پہنچایا گیا تو ساون بھادوں کی گھٹا کی طرح آپ کے اشکوں کی جھڑی نگ گئی — یہ دیکھ کر بادشاہ کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ سمجھا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا — اس نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ — استہزاء اور تمسخر کے انداز میں گویا ہوا۔

عبداللہ! تم کیوں رو دیئے؟ — کیا بیوی کی محبت نے تمہیں

اشکبار کر دیا؟ — یا بیٹوں اور بیٹیوں کے فراق پر پڑمردہ ہو گئے

ہو؟ — یا عنقریب دنیا کے چھوڑ جانے پر تمہارا دل بھر آیا ہے؟

حضرت عبداللہ نے دونوں ہاتھوں سے آنسوؤں کو پونچھا اور ایسا جواب

دیا، جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لئے اپنے صفحات میں محفوظ کر دیا — اور وہ

جواب بعد میں آنے والے جیالوں کے لئے مشعل راہ بن گیا۔

انہوں نے فرمایا

اے شاہ روم! خدائے برتر کی قسم! میں بیوی بچوں اور دنیا یا وطن کی

یاد میں نہیں رویا — مجھے تو اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میری ایک ہی جان ہے — جو اس کھولتے ہوئے پانی کی بھیٹ چڑھ جائے گی — کاش! کہ میری ایک لاکھ جانیں ہوتیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسی طرح قربان ہو جاتیں — میری آنکھوں کے اشک نشاں ہونے کا یہی ایک سبب ہے۔

بادشاہ نے جب ایک مومن کامل کے دل کی یہ آواز سنی — وہ دل جو ایمان، پاکدامنی اور استقامت سے لبریز تھا — تو اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں بجلی کی رودوڑ گئی ہے، اور اس کے حواس پر چھا گئی ہے — اس کے دل سے سطوت شاہی کا غرور حرف غلط کی طرح مٹ گیا — اس نے نوجوان کو انتہائی بلندیوں پر فائز پایا — اور اس کے دل نے گواہی دی کہ میں ذرہ ناچیز سے بھی کم تر اور حقیر ہوں۔

اس نے نگاہ اٹھا کر حضرت عبداللہ کو قید و بند میں جکڑے ہوئے دیکھا — اور جب نگاہیں چار ہوئیں، تو اسے اپنے سامنے آسمانی فرشتہ کھڑا دکھائی دیا، جس کی نگاہوں میں شاہانہ رعب اور جلال تھا — جو حکم دینا جانتا ہے، اور اسے حکم نہیں دیا جاسکتا — وہ تعمیل کرنا نہیں جانتا — وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعمیل کی جائے — اس کے خائب و خاسر اور برائی کا حکم دینے والے نفس میں اچانک ہی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ اس پاکیزہ اور پیکر اطمینان ذات کا قرب حاصل کرے — اور اس کے ساتھ روحانی تعلقات قائم کرے — ممکن ہے، اس کے قرب اور تعلق سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔

بادشاہ نے کہا، عبداللہ! کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم میرے سر

کو بوسہ دے دو؟ — اس شرط پر کہ میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ — اور تم جہاں جانا چاہو گے، آزادانہ جاسکو گے۔ — اس کی سوچ یہ تھی کہ میری یہ معمولی سی خواہش ضرور پوری کر دی جائے گی۔ — اور کون نہیں چاہے گا کہ ایک غضب ناک، اور بااختیار بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر طے شدہ خوف ناک موت سے رہائی پالے۔ — لیکن چشمہٴ اسلام کے آبِ زلال سے سیراب، اور سچی قربانی کے شوق سے سرشار حضرت عبداللہ کے عظیم اور بلند، دل و دماغ نے اس خیال ہی کو جھٹک دیا۔ — کہ وہ تنہا رہا ہو کر عیش و راحت کی زندگی بسر کریں۔ — اور ان کے دینی بھائی قید و بند میں جکڑے ہوئے شدید مشقت جھیلتے رہیں۔ —

بادشاہِ جواب کا غصہ تھا اور یہ شوق اس کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا۔ — کہ کب میری پیشانی پر بوسے کی مرثبت کی جاتی ہے؟ — اور اس بھانے ایک تو میرے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ — دوسرا اس عظیم انسان کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ —

حضرت عبداللہ نے کمال مہارت و بے نیازی سے فرمایا۔ — کیا اس طرح تم مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو گے؟

بادشاہ کے دل میں ان کی عظمت پہلے سے کہیں زیادہ نقش ہو گئی اور ان کا جواب سن کر سکتے میں آگیا۔ — دل ہی دل میں کہنے لگا، کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ — یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے۔ —

اور حقیقت یہ تھی کہ ایمان کی قوت نے ایک قیدی کو شاہی مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ — جہاں وہ حکم دے رہا تھا۔ — اور مد مقابل طاغوتی قوت کے مالک، بادشاہ کو ایک معمولی غلام کی جگہ لاکھڑا کیا تھا۔ —

بادشاہ نے کہا، ہاں! تم بھی آزاد ہو گے اور تمام مسلمان قیدی بھی رہا کر دئے جائیں گے۔ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ اگر حضرت عبداللہ اس سے بادشاہی کا مطالبہ بھی کرتے تو وہ بخوشی اس حکم کی تعمیل کر گزرتا۔ گویا، حضرت عبداللہ نے ایثار و قربانی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل اعتماد کی بدولت۔ بادشاہ سے لباس شاہی چھین کر اسے غلامی کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ تب، حضرت عبداللہ نے بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ مثبت کر دیا۔ بادشاہ کی دلی مراد بر آئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ دنیا بھر کی مسرتیں حضرت عبداللہ کے ہونٹوں میں سمٹ آئی ہیں۔ اور انہوں نے وہ مسرتیں، سراپا اشتیاق بادشاہ کے ماتھے کا جھومر بنا دی ہیں۔

بادشاہ نے حضرت عبداللہ اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حضرت عبداللہ مسرت سے سرشار، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگلوں اور بیابانوں کو برق رفتاری سے طے کرتے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے انتہائی مسرت کے ساتھ اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ اور حضرت عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا:

”مسلمانوں کا حق ہے کہ عبداللہ کے سر کو بوسہ دیں“

یہ وہ طالب علم ہیں جو مدینہ طیبہ کے دارالعلوم ”صفہ“ سے فیض یاب ہوئے، اور ایمان کے چشمہ صافی سے سیراب ہوئے۔ تاریخ نے اپنے نورانی صفحات میں ان کا سنہری تذکرہ ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔ وہ آنے والی نسلوں کے لئے منارۂ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے سچی قربانی کے شیدائیوں کے لئے راستہ ہموار کر دیا، اور جوانوں کے دلوں میں ایمان

صادق کے بیچ بودیے — وہ ایمان جو منفعت اور ریا کاری کی آلائشوں سے پاک ہے — یہ برکت ہے ان کے سچے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد کی — رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۱- حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین سابقین صحابہ میں سے ہیں — کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے — حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر میں آپ کا وصال ہوا — اور اسی جگہ مقبرہ میں محو استراحت ابدی ہوئے۔ ۱۲ فروری

<http://t.me/Tehqiqat>

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہنت صدیق اکبر

ہمت و جرأت کی پیکر صحابیہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیندار، دانش و فصاحت کی مالک اور خوددار خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس طرح پرورش کی کہ انہیں قوت، زکاوت اور شجاعت کا پیکر بنا دیا۔ اور ان کی شہادت کے وقت حیرت انگیز استقامت کا مظاہرہ کیا۔

حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر کے ساتھ جنگ کے لئے ایک لشکر بھیجا، جس نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا، اور جبل ابو قیس پر منجستیں نصب کر دیں، جن سے اہل مکہ پر سنگ باری کی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مردانہ وار، حجاج کے لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید یا روپوش ہو گئے، اور آپ تھارہ گئے۔ آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر معروف نماز ہو گئے۔ حجاج کے لشکریوں نے بیت اللہ شریف پر پتھر برسائے شروع کر دیئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ صورت حال دیکھی تو تنہا تلوار لے کر باہر نکل آئے، اور لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ سخت جنگ کے بعد سب لشکری بھاگ گئے۔ آپ والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ بڑھاپے کی منزلیں طے کر رہی تھیں، اور

بینائی زائل ہو چکی تھی — عرض کیا
والدہ محترمہ! آپ کا کیا حکم ہے؟ — میرے تمام ساتھی مجھے چھوڑ کر جا
چکے ہیں، اور میں تنہا رہ گیا ہوں — دشمن نے مجھے امان دینے کی پیشکش
کی ہے۔

حضرت اسماء نے فرمایا:

میری رائے یہ ہے کہ تو شہادت کی عزت حاصل کر، اور ایک کینے
فاسق کی پیروی اختیار نہ کر — تیرے دن کا آخری حصہ، پہلے
حصے سے زیادہ باعزت ہونا چاہیے
حضرت عبداللہؓ نے عرض کیا!

مجھے خوف ہے کہ وہ میری موت کے بعد، میری ناک اور کان کاٹ دیں گے
— اور میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔
حوصلہ منداں نے کہا:

”وہ جب ذبح ہو جائے تو اسے کھال اتارنے کی کوئی تکلیف نہیں
ہوتی“

حضرت عبداللہؓ نے والدہ کے سر کو بوسہ دیا، اور ماں نے اپنے لخت جگر کو
آخری بار سینے سے لگا کر رخصت کر دیا — حضرت عبداللہؓ باہر تشریف
لائے — اور منبر پر کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے
ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

موت کے بادل تمہارے سروں پر منڈلا رہے ہیں — اور موت تمہارے
ہاں قیام کرنے کے لئے ارد گرد چکر لگا رہی ہے — تم اپنی تلواروں کا
ہدف بنا لو، اور صبر کو اپنا دست و بازو بنا لو۔

یہ کہتے ہی تن تھما دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، اور انہیں دھکیلتے ہوئے حرم شریف سے باہر نکال دیا۔ اور مقابلہ کرتے ہوئے ان کے درمیان پہنچ گئے۔ جب وہ مل کر حملہ آور ہوتے، تو اس قدر شدید جوابی کارروائی کرتے کہ وہ منتشر ہو جاتے۔ یہاں تک کہ آپ کا جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ منجیق کا ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا، اور آپ زمین پر آ رہے۔ دشمن آگے بڑھے۔ اور آپ کو شہید کر کے بیت اللہ کی دیوار پر سولی چڑھا دیا۔

حجاج نے کہا، انہیں اسی طرح سولی پر لٹکا ہوا رہنے دو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی والدہ یہ منظر دیکھ کر کیا کہتی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دوسری ماؤں کی طرح روئیں گی۔ بین کریں گی اور شدت غم سے بیتاب ہو کر، اپنے منہ پر طمانچے ماریں گی۔ اور اپنا گریبان پھاڑیں گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت کمال صبر کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے۔ اور اس کے جسم میں شیر مردوں ایسی روح بھی ہو سکتی ہے۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کعبہ معظمہ کی طرف سے گزریں اور مردوں کے سروں کے اوپر سے اپنے بیٹے کو سولی چڑھے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے شیروں کی ایک جماعت کو جنم دینے والی ماں کی طرح گفتگو کی۔ بیٹے کی شہادت کا ان کے حواس پر کوئی اثر نہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ میرے بیٹے نے حق کی حمایت میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور وہ حق پر ثابت قدم رہ کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔

انہوں نے فرمایا:

أَمَا أَنْ لِهَذَا الْفَارِسِ أَنْ يَتَزَجَلَ

”کیا اس شہسوار کے پیدل چلنے کا وقت نہیں آیا؟“

حجاج کو یہ اطلاع ملی تو وہ ششدر رہ گیا اور حکم دیا کہ حضرت عبداللہ کے جسدِ عنصری کو دفن کر دیا جائے۔۔۔۔۔ یہ روح فرسا واقعہ ۶۳ھ میں پیش آیا۔۔۔۔۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

یہ بارگاہ رسالت کی فیض یافتہ طالبہ ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ ایسے شیروں کو جنم دیا۔۔۔۔۔ اپنے ایمان کی صداقت سے آنے والی ماؤں کے لئے عزت و خودداری کی راہیں کھول دیں۔۔۔۔۔ اور دنیا والوں کو استقامت اور عظمت انسانی کا درس دیا۔

انہوں نے تاریخ کے صفحات میں ایماندار عورت کا وقار بلند کیا۔۔۔۔۔ اور اپنے آپ کو بہت سے مردوں سے بلند ثابت کر دکھایا۔۔۔۔۔ آج کی تہذیب و ثقافت کی دلدادہ عورت اور حضرت اسماء و خساء کا تقابل کیا جائے۔۔۔۔۔ تو ان میں زمین و آسمان کا فرق دکھائی دے گا، سچ ہے کہ

إِذَا كَانَ النِّسَاءُ كَبَنٍ فَقَدْنَا

لَفُضِّلَتْ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ

”اگر تمام عورتیں ایسی ہی ہوں جیسی ہم کھوپکے ہیں تو عورتیں بہت سے مردوں سے سبقت لے جائیں گی“

۱۔ حضرت اسماء نبیہ پہلے پہل ایمان لانے والوں میں سے تھیں۔ سترہ حضرات کے بعد مکہ معظمہ میں ایمان لائیں۔ حضرت زبیر بن العوام نے ان سے نکاح کیا۔ ہجرت کے وقت حضرت عبداللہ ان کے شکم اطہر میں تھے۔ آپ کا لقب ذات النطاقین ہے۔ یہ لقب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسماء نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا۔ اسے باندھنے کے لئے کسی چیز کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنا پنکا دو حصوں میں تقسیم کر کے، ایک حصے سے دسترخوان باندھ دیا اور دوسرے کو پنکا بنا لیا۔ آخری عمر میں ان کی بیٹائی جاتی رہی۔ ہجرت سے ستائیس سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اور اپنے صاحبزادے کی شہادت تک زندہ رہیں۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد وفات پا گئیں۔ ان کی عمر شریف سو سال تھی۔ اس کے باوجود نہ کوئی دانت گرا، اور نہ ہی ان کی عقل میں کچھ فرق آیا۔ ۱۲۔ اصابہ بتصرف

۲۔ ابو محمد حجاج بن یوسف بن الحکم ثقفی، عبدالملک بن مروان کی طرف سے عراق اور خراسان کا گورنر تھا۔ اسی طرح بعد میں ولید بن عبدالملک کا گورنر رہا۔ یہاں تک کہ مر گیا۔ خوزیری میں شہر آفاق تھا۔ اس نے بہت سے علماء کو شہید کیا۔ جن میں حضرت سعید بن جبیر تابعی بھی تھے۔ اس کے پیٹ میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی، جس نے اسے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ ۱۲ رمضان المبارک ۹۹ھ میں فوت ہوا۔

تاریخ کے جمہورکوں سے

انوکھا شہسوار

حضرت عبداللہ بن زبیر نے ماں کا سر چوما اور دشمن پر حملہ کی اجازت طلب کی۔ ماں نے بیٹے کو گلے لگایا تو زہرہ پر ہاتھ لگا۔ ماں نے زہرہ اتارنے اور معمولی کپڑے پہن کر لڑائی پر جانے کے لئے کہا۔ بیٹے نے زہرہ وہیں پھینک دی اور آستین چڑھا کر ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ شامی فوج کے کئی افراد مارے گئے مگر کسی کو حضرت عبداللہ بن زبیر سے مقابلے کی جرات نہ ہوئی حجاج بذات خود لڑائی کے لئے آگے آیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے علم بردار کو گھیرے میں لے لیا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر نے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا اور علم بردار کو آزاد کر لیا پھر خانہ کعبہ کے روبرو مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی۔ شامی فوج نے خانہ کعبہ کے تمام دروازوں اور صفا مروہ پر قبضہ کر لیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز ادا کرنے کے بعد صفا کی جانب حملہ کیا اور کئی افراد کو قتل کیا ان کے تمام ساتھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ خود بھی زخمی تھے ان کے جسم پر بے شمار زخم تھے۔ آخر ماہ جمادی ثانیہ ۷۳ھ حضرت ابوبکر کا نواسہ، حضرت عائشہ کا بھانجا، آل حضرت کا نو عمر صحابی حضرت زبیر بن العوام کا بیٹا اس زمانے کا عظیم بہادر شہید کر دیا گیا۔ شامیوں نے ان کا سر کاٹ لیا جو خلیفہ عبدالملک بن مروان کو بھیج دیا گیا۔ لاش کو مقام حجون سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے سر کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا تھا۔ حضرت اسمانے بیٹے کی لاش دفن کرنے کی اجازت مانگی مگر حجاج بن یوسف نے انکار کر دیا ایک دن حضرت اسماء کا گزر مقام حجون میں سے ہوا تو فرمانے لگیں ابھی یہ شہسوار سواری سے نہیں اترا پھر خلیفہ عبدالملک بن مروان نے لاش دفن کرنے کی اجازت دے دی جس کے چند دن بعد حضرت اسماء بھی فوت ہو گئیں۔

(نوائے وقت شمارہ یکم مارچ ۱۹۸۶ء)

Click

اسلامی عدل کی درخشندہ مثال

آل جفہ کے بادشاہ 'جلد بن ایہم غسانی نے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عریضہ لکھ کر 'بار یابی کی اجازت طلب کی — آپ نے اجازت عطا فرمائی تو وہ اپنے پانچ سو اعزہ و اقرباء کے ہمراہ عازم مدینہ ہوا — جب دو منزل کا فاصلہ رہ گیا، تو اس نے اپنی آمد کی تحریری اطلاع بھجوائی — حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور چند حضرات کو اس کے استقبال کے لئے بھجوا دیا — اور اس کے شایان شان مہمانی کے انتظامات کا حکم صادر فرمایا — جلد کے حکم پر اس کے ایک سو ساتھیوں نے ہتھیار اور ریشمی لباس زیب تن کئے — گھوڑوں پر سوار ہوئے، جن کی دھڑکی آواز میں باندھ دی گئی تھیں — اور ان کے کانوں میں سونے اور چاندی کے زیور پہنائے گئے تھے — خود جلد نے ایک تاج پہنا جس میں قیمتی موتی، اور چھلے بڑے ہوئے تھے — جب وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، تو نو عمر بچیاں اور عمر رسیدہ عورتیں اس کی سج دھج دیکھنے کے لئے نکل آئیں — حضرت عمر نے اسے خوش آمدید کہی، لطف و کرم سے نوازا، اور اپنے پاس بٹھا کر عزت افزائی فرمائی۔

حضرت عمر حج کے لئے تشریف لے گئے، تو جلد کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے — مکہ معظمہ میں خاصا رش تھا — طواف کے دوران

بنو فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کے تہ بند پر آگیا۔۔۔ جس سے اس کا تہ بند ڈھیلا ہو گیا۔۔۔ جبکہ نے پلٹ کر اس زور سے تھپڑ رسید کیا کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔۔۔ اس شخص نے بارگاہ فاروقی میں مقدمہ دائر کر دیا۔۔۔ حضرت فاروق اعظم نے جبکہ کو بلایا، اور فرمایا

یہ کیا کیا؟

جبکہ۔۔۔ امیر المؤمنین! اس شخص نے دانستہ میرے تہ بند پر پاؤں رکھا تھا۔۔۔ اگر کعبہ شریف کی عزت و حرمت کا پاس نہ ہوتا، تو میں تلوار سے اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیتا

حضرت عمر۔۔۔ اب جبکہ تم اقرار کر چکے ہو، تو دو ہی صورتیں ہیں یا تو اس سے معافی مانگو۔۔۔ بصورت دیگر تم سے قصاص لیا جائے گا

جبکہ۔۔۔ وہ کیسے؟

حضرت عمر۔۔۔ میں اسے حکم دوں گا کہ تمہاری ناک توڑ دے۔۔۔ جس طرح تم نے اس کی ناک توڑی ہے۔

جبکہ۔۔۔ امیر المؤمنین! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟۔۔۔ جب کہ میں بادشاہ ہوں اور وہ عام آدمی ہے۔

حضرت عمر۔۔۔ اسلام نے تمہیں اور اسے یک جا کر دیا ہے۔۔۔ تمہیں اس پر صرف تقویٰ و پرہیزگاری، اور بھلائی میں ہی فضیلت ہو سکتی ہے۔۔۔ اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔

جبکہ۔۔۔ امیر المؤمنین! میرا خیال تو یہ تھا کہ جاہلیت کے مقابلے

میں اسلام میں مجھے زیادہ عزت ملے گی
حضرت عمر — اس بات کو چھوڑو — اس وقت دو ہی راستے ہیں،
یا تو اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لو — ورنہ مجھے تم سے
قصاص لینا پڑے گا

جبکہ — پھر تو میں عیسائیت کو ترجیح دوں گا
حضرت عمر — اب اگر تم عیسائیت اختیار کرو گے تو تمہاری
گردن اڑا دی جائے گی — کیونکہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور اسلام
لانے کے بعد مرتد ہونے کی سزا قتل ہے۔

جبکہ، حضرت عمر کے اہل فیصلے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا — کہ
مجھے غور و فکر کے لئے ایک رات کی مہلت دیجئے۔

جبکہ اور اس اعرابی کے قبیلے کے بہت سے لوگ حضرت عمر کے دروازے پر
جمع تھے — قریب تھا کہ آپس میں تصادم ہو جاتا — اتنے میں
شام ہو گئی۔

حضرت عمر فاروق کے حکم پر ہجوم منتشر ہو گیا — جب لوگ
آرام سے سو رہے تھے — جبکہ اپنے ساتھیوں سمیت شام کی طرف
بھاگ گیا — صبح ہوئی تو مکہ معظمہ میں ان کا ایک فرد بھی موجود نہ
تھا — شام پہنچ کر جبکہ اپنے پانچ سو ساتھیوں کو لے کر استنبول پہنچا
— اور شاہ روم ہرقل کے پاس جا کر عیسائیت کا اعلان کر دیا —
ہرقل اس بات سے بہت خوش ہوا، اور اس واقعہ کو اپنی عظیم فتح قرار دے
دیا — جبکہ کو منہ مانگا انعام دیا، اس کی پسند کے مطابق خطہ زمین بھی
اس کے نام کر دیا اور اسے اپنا خصوصی ہم نشین بنا لیا۔

اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
رحمتیں نازل فرمائے۔۔۔۔۔ اس طیب و طاہر اور مقدس روح
پر رحمت و رضوان کی برکھا برسائے۔۔۔۔۔ جسے اللہ تعالیٰ کی راہ
میں کسی کی ملامت کی پروا نہیں ہوتی تھی۔۔۔۔۔ انہوں نے ایک
ناوار، فقیر، اور عامی بدوی کے لئے جاہ و حشمت کے مالک، بادشاہ
سے قصاص لینے کا فیصلہ فرما دیا۔۔۔۔۔ جبکہ اور اس کے ساتھیوں
کی مرضی معلوم نہیں کی۔۔۔۔۔ وہ دنیا پر یہ واضح کر دینا چاہتے
تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام انسان یکساں ہیں۔۔۔۔۔ اللہ
تعالیٰ سب کا مالک اور سب اس کے بندے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ
کی اطاعت و فرمانبرداری ہی سے کسی ایک کو دوسرے پر برتری
حاصل ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی صرف
تقویٰ و پرہیزگاری کی بدولت ہی میسر ہو سکتی ہے۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکمرانوں کو سختی سے
عدل و انصاف کا حکم دے رکھا تھا۔۔۔۔۔ اور انسانوں کے درمیان پائے
جانے والے مادی امتیازات کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا تھا۔۔۔۔۔ آپ
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر صحیح طور پر کار بند تھے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ

وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ الْكِرْمَ عِنْدَ اللَّهِ الْفَاكِرُ

”اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد و زن سے پیدا کیا، اور تمہیں

شناخت کے لئے گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا — بے شک
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے — جو تم میں
زیادہ پرہیزگار ہے —

۱۔ القرآن ' الحجرات ۱۳

<http://t.me/Tehqiqat>

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سلطان العلماء

مصر میں اعلان ہوتا ہے

لوگو! تمہارے حکمران تمہارے غلام اور مملوک ہیں، وہ حکمرانی کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی نہ تو خرید و فروخت صحیح ہے اور نہ ہی ان کا کوئی تصرف اور نہ نکاح درست ہے۔ جب تک انہیں فروخت کر کے ان کی قیمت مسلمانوں کے بیت المال میں جمع نہیں کر دی جاتی۔ اور اس کے بعد انہیں آزاد نہیں کر دیا جاتا

دمشق کے عالم اور قاضی، جامع بنو امیہ کے خطیب، بلکہ اس دور میں عالم اسلام کے عظیم عالم دین۔ سلطان العلماء عز بن عبدالسلام نے یہ فتاویٰ صادر کیا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ ساتھ دانش و حکمت سے معمور دل اور نورانی روح عطا فرمائی تھی۔ انہیں حق کی حمایت اور باطل کی سرکوبی کے حوصلے سے سرشار فرمایا تھا۔

جوں ہی اس فتوے کا چرچا ہوا، نظام مملکت اور قوانین سلطنت ورہم برہم ہو گئے اور حکام کے فیصلے اپنا اثر و نفوذ کھو بیٹھے۔ عوام الناس حیران تھے کہ کیا کریں؟ اور حکمرانوں کی یہ حالت تھی کہ کوئی ان کے حکم کی تعمیل ہی نہ کرتا تھا۔ یہ اطلاع نائب سلطنت کو پہنچی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ سوچ بچار کے بعد امراء سلطنت کی میٹنگ طلب کی اور باہمی صلاح مشورے کے بعد طے کیا کہ شیخ کو بلا کر جواب طلبی کی جائے۔ شیخ تشریف لا کر بھرے مجمع میں بیٹھ گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہمارے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے؟

شیخ ان کے اجتماع سے قطعاً مرعوب نہیں ہوئے۔ بلکہ ان کی پرواہ تک نہیں کی۔ وہ ایک ایسے پہاڑ کی طرح دکھائی دے رہے تھے، جسے طوفان جنبش بھی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے پرسکون اور بااعتماد انداز میں فرمایا

میرے نزدیک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تم سب غلام ہو اور اسلامی بیت المال کی ملکیت ہو۔ شرعی طور پر تمہارے تصرفات صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ غلام اپنے مولا کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اور اس کا کوئی حکم اس کے آقا پر نہیں چل سکتا۔ اس لئے میں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ تمہیں فروخت کیا جائے اور تمہاری قیمت بیت المال میں جمع کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر اور تمام علماء پر یہ فریضہ عائد ہوا ہے۔

اراکین سلطنت نے پوچھا آپ کے فتوے سے خلاصی کی صورت کیا

ہے؟

شیخ نے فرمایا:

تمہارے لئے ایک بورڈ مقرر کیا جائے گا جو تمہیں فروخت کرنے کا اعلان کرے گا۔ تمہیں بیچ کر قیمت بیت المال میں داخل کر دی جائے گی۔ پھر تمہیں شرعی طریقے سے آزادی حاصل ہوگی، تب تمہارے تصرفات صحیح ہوں گے۔ اور شریعت مطہرہ کے صحیح طریقے کے مطابق تمہارے احکام قابل عمل ہوں گے۔

شیخ کی گفتگو کیا تھی؟ ایک آسمانی بجلی تھی جس نے ان کے

کانوں کے پردے پھاڑ دئے اور ان کے جسموں پر لرزہ طاری کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف استقہامی انداز میں دیکھا کہ اب کیا کیا جائے؟ — شیخ خاموشی سے سر جھکائے ان کی سرگوشیاں سن رہے تھے۔ انہوں نے عمائدین حکومت سے پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ — شیخ کی ہیبت اور روحانی قوت ان کے دل و دماغ پر چھا گئی اور انہیں کچھ کہنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ البتہ! انہوں نے یہ معاملہ بادشاہ وقت کے سامنے پیش کر دیا۔ اور فریاد کی کہ شیخ نے بڑی زیادتی کی ہے اور یہ فتویٰ سراسر ظالمانہ ہے۔

بادشاہ نے شدت سے محسوس کیا کہ حکومت کے ذمہ دار افراد پر بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اس نے شیخ کو طلب کیا اور تقاضا کیا کہ اپنا فتویٰ واپس لے لیں۔ شیخ نے فتویٰ واپس لینے سے واشکاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ شاہان وقت اور امراء دولت کے سامنے کھل کر حق کا اظہار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی کی ملامت سے متاثر نہ ہوں۔

بادشاہ نے زیادہ زور دیا اور دھمکی آمیز گفتگو پر اتر آیا۔ تو شیخ اپنے موقف پر ڈٹ گئے اور بادشاہ کے عتاب کو کوئی وقعت نہ دی۔ بلکہ جلال میں آکر فیصلہ کیا کہ میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا، جہاں کا بادشاہ ظالم ہو۔ اور اس کے بُرے امراء و وزراء باطل سے کنارہ کش ہونے کے لئے تیار نہ ہوں۔

شیخ نے اپنا ضروری ساز و سامان ایک گدھے پر لادا۔ اور اپنے اہل و عیال کو کرائے کی سواریوں پر سوار کیا، اور خود ان کے پیچھے

پیدل چل پڑے — ارادہ یہ تھا کہ قاہرہ کو چھوڑ کر اپنے پیدائشی وطن
شام چلے جائیں گے — انہوں نے ذلت و رسوائی کے ساتھ قیام پذیر
ہونے کی بجائے مشقت اور مصیبت سے پر ہجرت کی شرافت اختیار کرنے کا
فیصلہ کر لیا۔

حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے دین کے لئے دنیا — اور دار بقا
کے لئے دار فنا کو قربان کر دینے کا عزم کر لیا تھا۔

لیکن وہ زندہ قوم جس کے دل کی گہرائیوں میں مخلص علماء کی محبت
جاگزیں تھی — جو ان کے احکام کو دل و جان سے قبول کرتی تھی
— اور جو ان کے مقام کو اپنی قابل فخر تاریخ میں محفوظ کرنا جانتی تھی
— اس قوم کے جیالوں نے گوارہ نہ کیا کہ یوں علم و فضل، پاکدامنی
اور شجاعت، اخلاص اور خودداری اپنے وطن سے رخصت ہو جائے —
اور ہم بے جان جسم کی طرح اکیلے ہی یہاں پڑے رہیں — اس قوم
کے علماء، تاجر، عورتیں، بچے اور مرد، سب کے سب شیخ کے پیچھے چل
دئے — اور یہ تہیہ کر لیا کہ جہاں شیخ جائیں گے، ہم بھی وہیں جائیں
گے اور جہاں شیخ قیام کریں گے، ہم بھی وہیں رہیں گے — سارے کا
سارا شہر خالی ہو گیا — صرف چند عورتیں اور بچے باقی وہ گئے — جو
اپنا ساز و سامان سمیٹ کر اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچنے کی تیاریاں
کر رہے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ، لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں
— دلوں پر تو وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں عالم ہوتے
ہیں — جسموں اور دلوں پر حکومت کرنے میں زمین و آسمان کا فرق

— ہے۔

بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی کہ شیخ ترک وطن کر کے جا رہے ہیں — اور تمام آبادی ان کے پیچھے روانہ ہو چکی ہے — بادشاہ کو بتایا گیا کہ شہر میں ایک فرد بھی باقی نہیں رہا — سب لوگ شیخ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہجرت کر گئے ہیں — اب آپ کس پر حکم چلائیں گے؟ — جو فیصلہ کرنا ہے فوری طور پر کیجئے۔

بادشاہ لرز گیا، اسے اپنی ذات بڑی حقیر معلوم ہوئی — اسے اپنا خوفناک انجام سامنے دکھائی دینے لگا — اس کے اکثر و بیشتر نوکر چاکر شیخ کے ہمراہ جا چکے تھے — بادشاہ بلا تاخیر سوار ہوا اور بچے کھچے خدام کو ساتھ لے کر شیخ کی خدمت میں جا پہنچا — اور بہت دیر تک منت سماجت کرتا رہا، اور شیخ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا — مگر شیخ کی طرف سے ایک ہی انکار تھا — بادشاہ نے ہتھیار ڈال دئے، اور شیخ کے فتویٰ کو تسلیم کر لیا کہ اراکین دولت کو سر بازار فروخت کیا جائے گا — اور انکی قیمت مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دی جائے گی۔

شیخ کی واپسی کے دوسرے دن نائب سلطنت کو شیخ اور بادشاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو اور اس فیصلے کی خبر ملی کہ امراء و وزراء کو سرعام فروخت کیا جائے گا — تو اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جو اپنی حکمت عملی، شیریں بیانی اور انعام کی پیشکش کے ذریعے شیخ کو اپنا فتویٰ واپس لینے پر آمادہ کرے — لیکن شیخ کا فیصلہ اٹل تھا — وہ کسی صورت بھی اپنی رائے بدلنے پر تیار نہ ہوئے، تو نائب سلطنت کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اس نے کہا:

ہائے افسوس! یہ شیخ بازاروں میں ہمارے بارے میں اعلان کریں گے، اور ہمیں معمولی مال و متاع کی طرح فروخت کریں گے۔ حالانکہ ہم قوم کے قائد ہیں۔ زمین کے بادشاہ ہیں، ہم رعایا کے امراء اور سردار ہیں۔ خدا کی قسم! میں اپنی تلوار سے شیخ کا سر قلم کر دوں گا اور ان کا بے جان جسم میرے قدموں میں پڑا ہوا دکھائی دے گا۔

یہ کہا، اور اپنے ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ شیخ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مارے غصے کے اس کا برا حال تھا۔ ننگی تلوار اس کے ہاتھوں میں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔

جاتے ہی پوری قوت سے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ شیخ کے صاحبزادے یہ معلوم کرنے کے لئے باہر آئے کہ دروازے پر کون ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ باہر نائب سلطنت کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے۔ اور وہ اتنا غضبناک ہے کہ وہ صاحبزادے ہی کا کام تمام کر دے گا۔ وہ پلٹ کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گھبراہٹ سے صاحبزادے کا رُوں رُوں کانپ رہا تھا۔ خوف کسی برچھی کی طرح ان کے دل کے آر پار ہو رہا تھا۔ اور آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ اسی حالت میں انہوں نے صورت حال والد گرامی کے گوش گزار کی اور ان الفاظ میں درخواست کی۔

ابا جان! دروازے پر موت کھڑی ہے۔ خدا کے لئے آپ اپنی جان پر اور ہم پر رحم کھائیں۔ اور باہر نہ جائیں۔ شیخ نے اپنے بیٹے کی گفتگو کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مکمل حوصلے اور سچے عزم کے ساتھ

سکراتے ہوئے اپنے لخت جگر کی طرف دیکھا اور فرمایا:

بیٹے تیرے باپ کی قسمت میں کہاں کہ وہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے؟ — بیٹے کے ہاتھ سے دامن چھڑاتے ہوئے اس طرح دروازے کی طرف لپکے — جیسے تیر قضا ہو یا آسمان سے گرنے والی بجلی

جیسے ہی شیخ کی نگاہ نائب سلطنت پر پڑی، اسے یوں محسوس ہوا کہ شیخ کی روحانی قوت اس پر حاوی ہو گئی ہے، اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا — طاقت کا سارا غرور اور غیظ و غضب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا — بے ساختہ عجز و انکسار کے ساتھ جھکا ہوا سر اٹھایا اور شیخ سے درخواست کی کہ میرے لئے دعا فرمائیے — اللہ تعالیٰ میرے اس جرم کی توبہ قبول فرمائے۔

پھر پوچھنے لگا

جناب عالی! اب آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟

— ہم آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ کے اشارے کے

پابند ہیں

شیخ نے فرمایا:

تمہیں فروخت کروں گا — اور تمہاری قیمت مسلمانوں

کی ضروریات میں صرف کروں گا۔

نائب نے کہا، قیمت کون وصول کریگا؟

شیخ نے فرمایا:

میں بیت المال کے وکیل کے فرائض سرانجام دوں گا —

اگر بیت المال کا کوئی ذمہ دار منتظم نہ ہو تو قاضی اسکا ذمہ دار ہوتا

— ہے۔

نائب کچھ دیر خاموش رہا اور ندامت کے آنسو بہاتا رہا —
شوکت اقتدار اور غرور شاہی کی جگہ اس پر عجز و انکسار طاری ہو گیا
اور اس کے دل نے کہا کہ شیخ کا حکم مانے بغیر چارہ نہیں
— بے خودی کے عالم میں کہنے لگا:

ہم نے معاملہ آپ کے سپرد کر دیا — آپ جو چاہیں کریں
— انشاء اللہ! آپ ہمیں صابر پائیں گے اور ہم آپ کے حکم کی
خلاف ورزی نہیں کریں گے:

شیخ نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ بازار میں جا کر ایک ایک امیر کو فروخت کر
دے — اس شخص نے سر بازار اعلان کیا — اور بھاری قیمت
پر تمام امراء کو فروخت کر دیا — شیخ نے وصول ہونے والی تمام رقوم
‘کارہائے خیر اور عام مسلمانوں کی ضروریات پر صرف کر دیں

پھر شیخ نے اعلان کیا کہ عوام الناس جنہیں چاہیں اپنے حکام اور وزراء
منتخب کر لیں — سب نے بالاتفاق ان ہی وزراء کو منتخب کر لیا
— انہی کے حکام سلطنت ہونے کی توثیق کر دی اور انہیں دوبارہ ان
کے مناصب پر بحال کر دیا

تب حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے اور فرمایا

اب امراء و حکام کے تصرفات درست ہیں — پہلے یہ غلام
اور مملوک تھے — اب آزاد ہو گئے ہیں — اب — اب
انہیں امت مسلمہ کے تمام معاملات میں کارروائی کا حق پہنچتا ہے

— اب یہ صحیح معنوں میں رعایا کے حاکم اور محافظ بنے ہیں
خدا داد صلاحیتوں والے یہ وہ قدسی نفوس ہیں جن کا قول 'امت کے
مستقبل کی عملی اصلاح کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے — اپنے
ایمان کی صداقت، انسانی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد اور دین
پر غیر متزلزل یقین کی بدولت تاریخ کا دھارا موڑ دیا کرتے ہیں —
حکومتوں کے نقائص دور کر دیا کرتے ہیں — اور عوام الناس کو
کامیابی و کامرانی کی راہ پر ڈال دیا کرتے ہیں — رحمہ اللہ تعالیٰ
رحمتہ واسعہ

<http://t.me/Tehqiqat>

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پانچویں خلیفہ راشد

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکدامنی، عدالت و تقویٰ اور
امام عادل ————— دنیا اور اس کی زیب و زینت سے بے نیازی میں پانچویں
خلیفہ راشد ہیں

حضرت عطاء بن ابی رباح نے ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی
اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت عبدالملک کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں اپنے شوہر کے
بارے میں کچھ بتائیے :
انہوں نے فرمایا :

اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحمتیں نازل فرمائے ————— انہوں نے اپنی
ذات اور اپنے دماغ کو مسلمانوں اور ان کے معاملات کے لئے وقف کر رکھا
تھا ————— رات ہو جاتی اور دن کا کام ختم نہ ہوتا ————— وہ رات گئے
تک کام کرتے رہتے ————— جب فرصت ملتی تو اپنے ذاتی مال سے خریدا
ہوا چراغ منگواتے اور اس کی روشنی میں دو رکعت نماز ادا کرتے
————— پھر گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر بیٹھ جاتے ————— اور حالت یہ
ہوتی کہ سردونوں ہتھیلیوں پر رکھا ہوا ہے ————— آنسو رخساروں پر بہ
رہے ہیں ————— اور اس شدت سے روتے کہ یہ خدشہ محسوس ہوتا
کہ شدت گریہ کے سبب ان کا دل پارہ پارہ ہو جائے گا ————— اور جسم و
جان کا رشتہ منقطع ہو جائے گا ————— ساری رات اسی کیفیت میں گذر
جاتی اور دن کو روزہ دار رہتے

ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ایک وقت
تھا کہ آپ شاہانہ کرد فر کی زندگی بسر کرتے تھے ————— انہوں نے
فرمایا، ٹھیک ہے لیکن اب تم اپنا کام کرو ————— اور مجھے میرے حال پر
چھوڑ دو ————— میں نے عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی
نصیحت کریں

فرمایا: تو سنو!

میں نے جب دیکھا کہ اس امت کے ہر سرخ اور سفید کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے — اور اس کے ساتھ ہی مجھے دور دراز شہروں اور زمین کے اطراف و اکناف میں رہنے والے بھوک کے مارے ہوئے فقیروں، بے سہارا مسافروں، ستم رسیدہ قیدیوں، غریبوں اور ایسے ہی دیگر افراد کا خیال آیا تو میرے دل نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے گا — اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے حق میں، میرے خلاف بیان دیں گے — پھر کیا تھا؟ — میرے دل پر یہ خوف مسلط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میرا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا — اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کسی قسم کی صفائی پیش نہیں کر سکوں گا۔

اے فاطمہ! یہ سوچ کر مجھے اپنے اوپر ترس آیا — میری آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا اور مجھے دلی صدمہ پہنچا — اب میں اس حقیقت پر جتنا غور کرتا ہوں، اتنا ہی میرے خوف میں اضافہ ہو جاتا ہے — اب تیری مرضی ہے کہ نصیحت حاصل کر یا نہ۔

ایسے عظیم دل و دماغ کے مالک جو اس خیال ہی سے کانپ اٹھتے ہیں کہ ہم سے رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی — اور ان پر یہ خوف سوار رہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا — اس لائق ہیں کہ تمام لوگ کھلے دل سے ان کی قیادت قبول کریں — اور زمام سلطنت ان کے ہاتھوں میں دیدیں ایسے ہی عدل و انصاف اور ایثار و قربانی کی بدولت انہوں نے دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی — ممالک پر حکمرانی کی — عوام

Click

الناس نے ان کی اطاعت کو سعادت جانا ——— اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ایمانداروں کے لئے جس عزت و کرامت کا وعدہ فرمایا تھا، وہ ایسے ہی سراپا عدل و انصاف حضرات کا حصہ ہے ——— یقیناً! انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر کے دکھا دیا

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

بخاری شریف ، کتاب الجمعہ

<http://t.me/Tehqiqat>

اللہ تعالیٰ کی تلوار

دشمنوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی برہنہ شمشیر ————— ابو سلیمان خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ————— قریش کے روساء میں سے تھے ————— زور جاہلیت میں جنگی گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھ میں تھیں ————— عمرہ حدیبیہ تک تمام جنگوں میں مشرکین قریش کے ساتھ رہے ————— غزوہ خیبر کے بعد ۷ھ میں دل و جان سے اسلام لے آئے ————— غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ شریک جہاد رہے ————— جب یکے بعد دیگرے تین کمانڈر شہید ہو گئے تو حضرت خالد نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا ————— انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام بڑی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں اور باقی بھی خطرے کی زد میں ہیں ————— تو وہ حکمت عملی سے کام لے کر پیچھے ہٹ گئے اور مجاہدین کو رومیوں کے زرخے سے نکال لائے۔

حضرت خالد جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو بعض حضرات نے کہا کہ وہ جنگ کی تاب نہ لا کر بھاگ آئے ہیں ————— اور انہیں کہا کہ تم بھگوڑے ہو ————— نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے اس معرکے کی تفصیلات سنیں تو ان کی کارروائی کی تائید فرمائی ————— اور پیچھے ہٹ جانے کو ان کی جنگی حکمت عملی قرار دیا ————— کیونکہ وہ اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کو بچا لائے تھے، اور اگر انہیں اسی حالت میں رہنے دیتے تو بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہو جاتے۔
ارشاد فرمایا:

لَا بَلَّ أَنْتُمْ الْكُرَّاءُ خَالِدًا سَيْفٌ

مِنْ سَيْفِ اللَّهِ سَلَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ

تم راہ فرار اختیار کرنے والے نہیں ————— بلکہ پلٹ کر حملہ

کرنے والے ہو — خالد، اللہ تعالیٰ کی برہنہ شمشیر ہے جسے اس نے دشمنوں کے سر پر مسلط کر رکھا ہے۔“
فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور انہوں نے خوب خوب داد شجاعت دی۔ آپ ہی نے مشہور زمانہ بت، لات کو اس کے پجاریوں کے سامنے پاش پاش کیا۔ — حنین اور طائف کے میدان میں شریک ہوئے۔ — ۹ھ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دومتہ الجندل کے بادشاہ اکیدرٹ کی طرف بھیجا جسے آپ نے گرفتار کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ — بعد میں اکیدر نے جزیہ دینے کی شرط پر مصالحت کر لی۔

حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والوں کا پہلا سالار مقرر کیا اور انہیں جھنڈا عطا کرتے ہوئے فرمایا:

”خالد بن ولید، اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ اور اپنے خاندان کا نہایت عمدہ فرد ہے۔ — وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تلوار ہے جسے اس نے اپنے دشمنوں کے سر پر بے نیام کر رکھا ہے۔“

حضرت خالد بن ولید، ان عظیم انسانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام کے نور سے دنیا کا گوشہ گوشہ منور کرنے میں بے مثال خدمات انجام دیں۔ — انہوں نے پہلے طلحہ اسدی کی طرف رخ کیا اور اس کی جمعیت پلہہ پارہ کر دی۔ — پھر یمامہ پہنچ کر اسے فتح کیا اور میلہ کذاب سے کو واصل جہنم کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں، اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔

یمامہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر نے انہیں عراق پہنچنے کا حکم دیا۔ — چنانچہ وہاں جا کر حیرہ کو صلح سے اور بہت سے دوسرے شہروں کو جنگ کے بعد فتح کیا۔

پھر دربار خلافت سے انہیں شام میں موجود امراء کی امداد

کے لئے پہنچنے کا حکم ملا ————— چنانچہ وہاں پہنچ کر جنگ یرموک میں شامل ہوئے اور دمشق فتح کیا ————— جنگ یرموک میں ایک دن ان کی ٹوپی گم ہو گئی ————— حکم دیا کہ اسے تلاش کیا جائے، لیکن وہ نہ ملی، حضرت خالد اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ وہ مل نہ گئی کسی نے پوچھا، اتنی سختی سے ٹوپی کے تلاش کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ————— فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کے بعد بال منڈوائے تو صحابہ کرام آپ کے مقدس بالوں کو حاصل کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے ————— وہ بابرکت بال، میں نے اس ٹوپی میں محفوظ کر لئے تھے ————— پھر میں جس جنگ میں بھی یہ ٹوپی پہن کر گیا، وہیں میں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے فتح مبین دیکھی۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جنگ موتہ میں نو تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں ————— صرف چوڑے پھل والی یعنی تلوار تھی جو کام دیتی رہی ————— حضرت خالد جب حیرہ تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو یہ زہر پی جائیں، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اسے پیتے ہی آدمی اگلے جہان روانہ ہو جاتا ہے ————— آپ نے فرمایا، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ————— انہوں نے کہا، ہاں! آپ نے وہ زہر لے لی اور کہا،

اس ذات اقدس کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔

یہ کہا، اور ان کے سامنے ساری زہر پی گئے ————— زہر نے انہیں کوئی گزند نہیں پہنچائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہیں کامل یقین و ایمان تھا ————— وہ پیکر اخلاص تھے ————— اور صدق دل سے ایمان کی دعوت دیتے تھے۔

وہ اسلام کی نصرت اور فتوحات کا رجوش ولولہ رکھتے تھے ————— اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اس عظیم جرنیل کو تلواروں کے سائے

میں شہادت کا کتنا شوق تھا؟ تو سنئے! — وہ کس حسرت اور کرب کے ساتھ فرما رہے ہیں :

آہ! آہ! میں اسلام کی راہ میں بہت جنگوں میں شریک ہوا — ہر جنگ میں مجھے تلوار کا چرکا لگا، یا مجھے نیزے کا نشانہ بنایا گیا — میں نے بنو حنیفہ (سہیلہ کے ساتھیوں) سے بڑھ کر تلوار کا شدید وار کرنے اور موت پر صبر کرنے والی کوئی قوم نہیں دیکھی۔ پھر پھولتے ہوئے سانسوں میں روتے ہوئے فرمایا:

اور اب میں جانور کی طرح اپنے بستر پر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں — خدا کرے کہ بزدلوں کو نیند نصیب نہ ہو“

وصال سے پہلے فرمایا:

میں نے موت کو ان جگہوں میں تلاش کیا جہاں اس کے ملنے کی توقع تھی — مگر میری قسمت میں یہی تھا کہ میری موت بستر پر آئے — کلمہ طیبہ کے بعد میرے لئے سب سے زیادہ باعث امید وہ رات ہے جب اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور میں ساری رات صبح تک ڈھال سنبھالے رہا — پھر جنگ میں مصروف ہو گیا۔

حضرت خالد نے تمام عمر جہاد کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کے ہتھیار، جہاد میں استعمال ہوتے رہیں — اس لئے فرمایا:

”میری وفات کے بعد مرے ہتھیار اور میرا گھوڑا فی سبیل اللہ“
اسلام کے لئے وقف کرونا“

پھر اپنی اولاد کی دیکھ بھال حضرت عمر کے سپرد کی اور وصال فرما گئے — اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں ان پر نازل ہوں، مدینہ منورہ میں بنو مخزوم کی عورتیں بے ساختہ رو پڑیں — کچھ صحابہ نے انہیں منع کیا تو حضرت عمر نے فرمایا:

انہیں ابو سلیمان پر آنسو بہانے دو — اب خالد ایسا اسلام کا شیر عورتوں کی کوکھ سے جنم نہیں لے گا۔

حضرت خالد بن ولید نے ہمارے لئے روحانی قیادت اور صبح قربانی کا راستہ کھول دیا — ان کی روح اس مادی جہان میں نہیں بلکہ آسمان مقاصد پر زندگی بسر کرتی تھی — بظاہر وہ زمین پر چلتے تھے مگر ان کی جان 'جنت کے شوق میں سرشار رہتی تھی — شراب کے عادی کو شراب کا اتنا شوق نہیں ہوگا جس قدر انہیں جنت کا شوق تھا۔ دنیا کی نعمت و راحت سے معمور زندگی سے کہیں زیادہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا شوق تھا — اپنی قوم کا مخلص قائد ایسا ہی ہونا چاہئے — روحانی قیادت 'اخلاص' قربانی اور ایثار کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں عرض کیا ہے

- دنیا کی تمام تر چمک دمک کے باوجود 'مال دنیا آپ کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکا — اور نہ ہی کوئی چھوٹا یا بڑا مرتبہ آپ کے لئے آزمائش بن سکا ہے۔
- بلکہ آپ کی عظیم روح 'بلند پرواز کے ساتھ غالب رہی اور سب لوگ آپ کی بارگاہ میں جسمانی اور روحانی طور پر جھک گئے۔
- قیادت 'صرف قائد کی اس روح کی ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں سے ایمان اور ایثار میں بلند و بالا ہوتی ہے۔

اکیدر : یہ اکیدر بن عبدالملک 'دوست الجندل کا بادشاہ تھا — حضرت خالد بن ولید نے اسے گرفتار کیا اور لا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا — آپ نے اسے پناہ عطا فرمائی اور اس کے ساتھ صلح کر کے ار کے علاقے کی طرف واپس کر دیا — حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

زمانے میں اس نے عمد توڑ دیا ' آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا — جنگ میں گلت کھا کر وہ بھاگ گیا انہوں نے اس کے پیچھے چند افراد کو روانہ کیا جنہوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ ۱۲ فروری

۲ علیہ بن خویلد اسدی ' اسلام لائے پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسال سے پہلے مرتد ہو گئے — وہ کہتے تھے کہ جبریل امین ان کے پاس آتے تھے ' قبیلہ اسد اور غطفان کے بت سے لوگ ان کے پیروکار بن گئے — وہ انہیں کہتے تھے کہ نماز میں سجدہ نہ کرو ' اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے خاک آلود کرنے اور سرخوں کو بری طرح اوپر اٹھانے کو کیا کرے گا؟ — تم کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو — حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو ان کی طرف روانہ کیا ' وہ اور ان کے ساتھی گلت کھا کر بھاگ گئے اور شام چلے گئے — پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں واپس آ کر اسلام لائے — کافروں کے ساتھ جنگوں میں بڑے معرکے انجام دیے — عراق کے فاتحین میں شامل تھے اور مشہور زمانہ بھادروں میں سے ایک تھے — نہادند میں شہید ہوئے — رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۱۲ فروری

۳ مسیلہ کذاب ہارون بن حبیب ' ابو ثمامہ ' بنو خنیفہ میں سے تھا — نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لایا — پھر اپنی قوم کے پاس جا کر مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا — وہ قرآن پاک کے مقابلے میں انتہائی گھٹیا اور کمزور کلام ' کسبج ' متغنی انداز میں پیش کرتا — حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو ایک لشکر دیکر بھیجا — چنانچہ انہوں نے جنگ میں مسیلہ کو گلت فاش دی — یہ واقعہ ۱۱ھ کا ہے۔ ۱۲ فروری

۴ یہ ان کی عاجزی کی انتہا ہے — ورنہ وہ عظیم انسان اور بے مثال کمانڈر تھے — رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۱۲ فروری

اقوام عالم کے قائدین

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے

قائد ایران، رستم پورے شاہی طمطراق کے ساتھ دربار لگائے بیٹھا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو اپنا نمائندہ بنا کر اس کے پاس بھیجا۔ حضرت مغیرہ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جگمگاتے تاج اپنے سروں پر سجا رکھے ہیں۔ اور سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے سُندُس کے کپڑے زیب تن کئے ہوئے ہیں جن میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مغیرہ شان بے نیازی سے جوتوں سمیت قالینوں پر چل رہے ہیں۔ اور اپنے نیزے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تکیوں اور قالینوں کو چھیدتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چلتے چلتے رستم کے پاس پہنچ گئے۔ وہ سنہری تخت پر بت کی طرح براجمان تھا، اور درباری اس کے اردگرد پجاریوں کی طرح بادب بیٹھے تھے۔ حضرت مغیرہ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہیں نہ تو دربانوں کی طاقت روک سکی اور نہ ہی شاہی ہیبت ان کے راستے میں رکاوٹ بنی۔

دربانوں نے جب انہیں رستم کے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھا تو آگ بگول ہو گئے۔ دوڑ کر ان کے پاس پہنچے اور جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگے۔ تخت سے نیچے اترو۔ حضرت مغیرہ نے قالین کا کنارہ الٹ دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ نہ تو مرعوب تھے اور نہ ہی خوفزدہ، بلکہ وہ انہیں نگاہ حکارت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں کیا تھیں؟ کمانوں سے نکلے ہوئے تیز تیر تھے۔ انہوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

”ہم تو سنا کرتے تھے کہ تم لوگ بڑے دانشور ہو، لیکن میں

نے تم سے زیادہ احمق کوئی قوم نہیں دیکھی — ہم غریبوں میں سچی مساوات ہے، ہم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتا — میرا ایمان تھا کہ ہماری طرح تم بھی اپنی قوم سے ہمدردی رکھتے ہو گے — تمہاری موجودہ روش سے تو بہتر تھا کہ پہلے بتا دیتے کہ تم اس شخص کی پوجا کرتے ہو، اور تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کے رب ہیں — میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا یہ طریقہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا اور دنیا میں کسی نے بھی یہ طریقہ نہیں اپنایا — میں تمہارے پاس خود نہیں آیا، بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں

آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا اقتدار ڈگمگا رہا ہے، اور تم بہت جلد شکست کھا جاؤ گے — یاد رکھو کہ اس روش اور ان عقلوں کی بنیاد پر کوئی بھی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی

ان کی گفتگو کے ختم ہونے سے پہلے حاضرین مجلس کے ذہنوں میں برپا ہونے والے انقلاب کے اثرات، ان کے چروں پر دکھائی دینے لگے — اور ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں کہنے لگے، 'خدا کی قسم! اس عربی نے جو کہا ہے — سچ کہا ہے، اس کی ایک ایک بات سچی ہے — ایک دربان نے ان کی گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: ہمارے غلام اس گفتگو کا عرصہ وراز تک پسندیدگی اور محبت سے جڑ چا کرتے رہیں گے — اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کا ستیا ناس کرے، وہ کتنے بے وقوف ہیں؟ جو اس قوم کو ذلیل کرتے رہے ہیں۔

پھر تو سرگوشیوں کا سلسلہ چل نکلا — یہ عربی ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے — واقعی عربوں کے قائدین اور عوام کے حقوق یکساں ہیں — ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

ہمارے لیڈروں کو دیکھو، کھانے پینے اور بیٹھنے میں ہم سے الگ رہتے ہیں۔۔۔۔۔ برتری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تکبر کے پیکر ہیں۔۔۔۔۔ ہم ان کی خدمت و طاعت اور ان کی خواہشات پوری کرنے میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر بھی ان کی نظر میں ہماری کوئی وقعت نہیں ہوتی۔

حضرت مغیرہ کی گفتگو کیا تھی؟۔۔۔۔۔ وہ نشانے پر لگنے والا تیر تھا۔۔۔۔۔ رستم نے محسوس کیا کہ ان کی گفتگو کو زبردست پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور اس کی رعایا کے دلوں کے کنول کھل اٹھے ہیں۔۔۔۔۔ اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔۔۔۔۔ اور اسے اس کلام کے نتائج سے خوف آنے لگا۔۔۔۔۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کی عزت و عظمت اور عظیم حکومت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ عربوں کے فقر و فاقہ، باہمی اختلاف اور کمزوری کا ذکر کر کے، ان کی بے مائیگی کا اظہار ضروری سمجھا۔

رستم نے کہا، ہماری قوم مختلف ممالک پر حکمران رہی ہے۔۔۔۔۔ دشمنوں پر غالب اور اقوام عالم میں سر بلند رہی ہے۔۔۔۔۔ عزت و سلطنت میں کوئی قوم ہمارے مد مقابل نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہم دوسروں پر غالب ہوتے ہیں کوئی دوسری قوم ہمارے گناہوں کی بنا پر صرف ایک یا دو دن یا ایک مہینہ ہم پر غلبہ پالیتی ہے۔۔۔۔۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے دیتا ہے اور ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو دوبارہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔۔۔۔۔ اور ہم پھر غالب ہو جاتے ہیں۔

پھر عربوں کی تذلیل کرتے ہوئے ان کے عیوب گنوانے لگا۔۔۔۔۔ حضرت مغیرہ اور عربوں کے رعب اور دبدبے کو ختم کرنے کے لئے ان کے فقر، ناداری، کمزوری اور ذلت کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگا: ہمارے نزدیک کوئی قوم تم سے زیادہ حقیر نہ تھی۔۔۔۔۔ تم تنگ حال اور نادار تھے۔۔۔۔۔ تمہاری معاشی حالت تباہ تھی۔۔۔۔۔ ہم تمہیں کسی گنتی شمار

میں نہ لاتے تھے ————— قحط سالی کے مواقع پر تم ہمارے پاس آتے تھے تو ہم تمہیں کچھ کھجوریں اور جو دے کر واپس کر دیتے تھے ————— میں جانتا ہوں کہ تمہاری لشکر کشی کا باعث صرف یہ ہے کہ تم اپنے ملک میں افلاس کا شکار ہو ————— تم واپس لوٹ جاؤ ————— میں تمہارے امیر کے لئے بہترین پوشاک، خچر اور ایک ہزار، ربم کا حکم دیتا ہوں ————— اور تمہارے ہر فرد کو کھجوروں کی بھاری مقدار دیتا ہوں ————— میں نہ تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی قیدی بنانا چاہتا ہوں۔

رستم چند لمبے بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ خاموش رہا ————— اس نے خیال کیا کہ میں نے اپنے مد مقابل کا زور توڑ دیا ہے ————— اسے شکست دیدی ہے اور اس سے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔

حضرت مغیرہ نے اس کی لن ترانیوں کو ذرہ برابر وقعت نہ دی ————— اور جب گویا ہوئے تو ان کے ہونٹوں پر استہزائی تبسم کھیل رہا تھا، انہوں نے فرمایا:

ہاں! ماضی میں ہمارا وہی حال تھا جو تم نے بیان کیا ————— پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے ہم میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ————— جس نے ہمارے تمام اختلافات مٹا کر ہمیں متحد اور یک جان کر دیا ————— اور ہمیں بتایا کہ تمہارے ممالک، ہمارے لئے فتح ہو جائیں گے ————— اور تمہارے اموال ہماری ملکیت میں آجائیں گے ————— ہم تو وہ سب کچھ وصول کرنے آئے ہیں جس کا وعدہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ہم تمہارے سامنے تین صورتیں رکھتے ہیں، ان میں سے جو چاہو قبول کرلو۔

۱۔ اسلام قبول کرلو، تمہارے حقوق اور فرائض وہی ہوں گے جو ہمارے ہیں ————— ہم تمہیں تمہاری حالت پر چھوڑ دیں گے، حکومت بھی تم ہی کرو گے۔

۲ جزیہ ادا کرو، جتنی مقدار پر ہم متفق ہو جائیں، کہ ہم قبول کر لیں گے اور تم سے ہاتھ روک لیں گے۔ اور اگر تمہیں امداد کی ضرورت ہوئی تو ہم تمہاری امداد کریں گے۔

۳ جنگ اور پہل ہم نہیں کریں گے، تم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ہاں! یہ بھی سن لو! کہ ہمارے اہل و عیال نے تمہارے شہروں کے کھانے چکھ لئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ رستم نے تعجب کیا اور کہنے لگا: تب تو تم ان شہروں تک پہنچنے سے پہلے ملک عدم کو کوچ کر جاؤ گے۔

حضرت مغیرہ نے فرمایا: ہمارا مقتول جنت میں اور تمہارا مقتول دوزخ میں جائے گا۔ پھر ہمارے باقی ماندہ افراد تمہارے بچ جانے والوں پر غلبہ پائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم وہ کچھ حاصل کر لیں گے جس کا وعدہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور خاموش ہو گئے۔

رستم کا غیظ و غضب اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ قریب تھا کہ شدت غضب کی بنا پر پھٹ جائے۔ آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں، منہ سے جھاگ اڑنے لگی۔ اور چنگھاڑتے ہوئے سورج اور اس کی دھوپ کی قسم کھا کر کہنے لگا: کل سورج کے بلند ہونے سے پہلے ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔

حضرت مغیرہ مسکرائے اور مرعوب یا خوفزدہ ہوئے بغیر پلٹ گئے۔ ان کی حقیقت پسندانہ گفتگو نے رستم کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ انہیں جاتے ہوئے ایک ٹک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی نگاہوں سے او جھل ہو گئے۔

پھر رستم اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوتا ہوا کہنے لگا:
اف! عمر نے اپنے لشکروں کے ذریعے میرا جگر کھالیا ہے

_____ اے اہل فارس! ان لوگوں کا تمہارے ساتھ کیا
مقابلہ؟ _____ خدا کی قسم! اگر عرب اتنے دانشمند ہیں کہ اپنے
رازوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے اختلافات مٹا سکتے ہیں
_____ تو کوئی قوم ان سے بڑھ کر اپنے مقاصد میں کامیابی
حاصل نہیں سکتی۔

اے اہل فارس! میری بات مانو _____ میری رائے یہ ہے کہ
تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہے جسے تم ٹال
نہیں سکتے۔

لیکن اس کی قوم نے پورے اصرار کے ساتھ کہا کہ اب جنگ کے
علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے _____ چنانچہ جنگ ہوئی اور زیادہ وقت نہیں
گزر سکا کہ رستم مارا گیا، اس کا لشکر تترہتر ہو گیا _____ اور مسلمانوں
کو اللہ تعالیٰ کے دین کی امداد اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
پیروی کی برکت سے فتح و نصرت اور عزت و سیادت حاصل ہوئی جس کا وعدہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا _____ ان کے تخت و
تاج مسلمانوں کا ورثہ بنے، اور ان کے اموال اور خواتین، غنیمت کا حصہ
بنے _____ شاہ ایران کی بیٹی، جس نے بڑے جاہ و جلال کی زندگی بسر کی
تھی، وہ بھی مال غنیمت میں شامل ہوئی۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسہ سے فارغ
ہونے والا عساکر اسلام کا یہ وہ فوجی ہے _____ جس کا دل اللہ تعالیٰ پر
اعتماد اور ایمان سے پُر ہے _____ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے
اس کے علاوہ کسی سے ڈرنا ہی نہ جانتے تھے _____ انہوں نے بڑے
بڑے سلاطین اور لیڈروں کو انصاف اور حریت کا درس دیا اور انہیں رعایا
کے ان حقوق سے آگاہ کیا جو ان کے ذمہ تھے _____ اسلام کا صراط
مستقیم و اشکاف لفظوں میں ان کے سامنے پیش کیا اور اس کی طرف راہنمائی
کی _____ چنانچہ انہوں نے اپنے بعد سخت پتھر دلوں اور جامد عقلوں کو

اس حال میں چھوڑا کہ وہ نرم ہو چکے تھے اور ان کے مشتاق تھے۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (۶۵/۲)

ترجمہ : اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال
دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اسے گمان نہ ہو اور جو
اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔

کنز الایمان

۱۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں — فتح ایران میں شامل
ہوئے — وہ اپنے دور کے چار نابغہ روزگار دانشوروں میں سے ایک تھے۔ ۱۲

فرغ

نظامِ مصطفیٰ کی بالادستی

جرات مند قاضی ————— حق پرست حکمران

کوفہ کے قاضی شریک بن عبداللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے ————— ایک عورت حاضر ہو کر بلند آواز سے کہتی ہے ————— کہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی 'پھر قاضی کی پناہ لیتی ہوں ————— قاضی نے پوچھا 'تم پر کس نے ظلم کیا؟ کہنے لگی ————— امیر المومنین کے چچا 'موسیٰ بن عیسیٰ نے ————— دریائے فرات کے کنارے میرا کھجوروں کا ایک باغ تھا' جو مجھے والد کے ورثے میں ملا تھا ————— میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں سے الگ کر کے درمیان میں دیوار تعمیر کر دی ————— اور کھجوروں کی دیکھ بھال کے لئے ایک ایرانی شخص کو مقرر کر دیا ————— امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے میرے بھائیوں کے تمام حصص خرید لئے ————— مجھ سے بھی بات چیت کی اور بھاری معاوضے کا لالچ دیا ————— لیکن میں نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا ————— گزشتہ رات اس نے پانچ سو غلام بھیج کر دیوار مسمار کرا دی ————— اب میری اور میرے بھائیوں کی کھجوروں میں کوئی امتیاز نہیں رہا۔

قاضی نے غلام سے مٹی طلب کی اور اس پر اپنی مہر لگا کر اسے حکم دیا کہ امیر کے گھر لے جاؤ اور اسے اپنے ساتھ لاکر حاضر کرو ————— دربان عدلیہ کی مہر والا حکم نامہ لے کر موسیٰ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ قاضی نے آپ کے خلاف سمن جاری کر دیا ہے اور یہ رہی ان کی مہر۔

موسیٰ نے پولیس کے سربراہ کو بلا کر کہا 'شریک کے پاس جاؤ ————— اور اسے کہو' یہ کتنی عجیب بات ہے؟ ————— میں نے تمہارے معاملے سے زیادہ عجیب کوئی معاملہ نہیں دیکھا ————— ایک عورت نے بے بنیاد دعویٰ کیا ہے ————— اور تم میرے خلاف اس کی

امداد کر رہے ہو۔

سربراہ پولیس امت مسلمہ میں قاضی کے مقام اور اس کی ہیبت کو جانتا تھا۔۔۔۔۔ اس لئے وہ خوفزدہ ہو گیا، اور کہنے لگا، مجھے تو آپ معاف ہی رکھیں۔۔۔۔۔ امیر نے اسے ڈانٹ کر کہا، جاؤ۔۔۔۔۔ وہ بے چارہ بادل نخواستہ روانہ ہو گیا۔۔۔۔۔ اور اپنے غلاموں کو کہہ گیا کہ قاضی کی جیل میں میرا بستر اور ضرورت کی چیزیں پہنچا دو۔۔۔۔۔ پھر قاضی شریک کے پاس چلا گیا۔۔۔۔۔ جب قاضی کے سامنے حاضر ہوا، تو اسے موسیٰ کا پیغام دیدیا۔۔۔۔۔ قاضی نے اپنے کارندے کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دو۔۔۔۔۔ پولیس کے سربراہ نے کہا، بخدا! مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے قید کر دیں گے۔۔۔۔۔ اس لئے میں نے ضرورت کی چیزیں جیل بھجوا دی ہیں۔۔۔۔۔ آپ مجھے جہاں چاہیں۔۔۔۔۔ بھیج دیں، میں اس کے لئے تیار ہوں۔

موسیٰ بن عیسیٰ کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے دربان کو قاضی کے پاس بھیجا اور کہا۔۔۔۔۔ ہمارے نمائندے نے صرف ہمارا پیغام پہنچایا تھا، اس کا کیا گناہ ہے؟۔۔۔۔۔ شریک نے کہا، اسے بھی اس کے ساتھی کے پاس جیل بھیج دو۔۔۔۔۔ چنانچہ اسے بھی قید کر دیا گیا۔

امیر نے نماز عصر پڑھنے کے بعد قاضی شریک کے دوستوں اور کوفہ کے سرکردہ لوگوں، اسحاق بن صباح، اشعنی وغیرہ کو طلب کیا۔۔۔۔۔ اور انہیں کہا کہ شریک کو ہمارا سلام دینا اور اسے کہنا کہ اس نے ہماری بے عزتی کی ہے۔۔۔۔۔ اور ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں (بلکہ ہم امیر المؤمنین کے چچا ہیں) وہ لوگ پہنچے، تو قاضی شریک عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے تھے۔۔۔۔۔ جب انہوں نے پیغام دیا تو قاضی صاحب کہنے لگے۔۔۔۔۔ اچھا تو کیا تم وفد کی صورت میں آ کر اس بارے میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہو؟۔۔۔۔۔ اور آواز دی کہ اس وقت قبیلے کے جوانوں میں سے کون کون حاضر ہے؟۔۔۔۔۔ چند جوان حاضر ہو گئے۔۔۔۔۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قاضی نے انہیں حکم دیا کہ ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور سیدھے جیل لے جاؤ۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا: تم فتنہ ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے۔ انہوں نے پوچھا، جناب! کیا آپ سنجیدہ ہیں؟۔ قاضی نے کہا، ہاں! تاکہ تم دوبارہ ایک ظالم اور سرکش کا پیغام نہ پہنچاؤ۔ اور دوسرے لوگوں کو غلط کام کی جرأت نہ ہو۔ چنانچہ انہیں بھی قید کر دیا گیا۔

رات ہوئی تو موسیٰ بن عیسیٰ خود پہنچ گئے اور جیل کا دروازہ کھول کر سب کو رہا کر دیا۔ دوسرے دن جب قاضی شریک مسند قضا پر جلوہ گر ہوئے تو جیلر نے آکر رات کا تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ قاضی نے اپنا حکم نامہ منگوا کر سیل کیا اور اپنے گھر بھیج دیا۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ ہمارا ساز و سامان بغداد لے چلو۔ ہم کوفہ میں نہیں رہیں گے۔ بخدا! ہم نے ان سے منصب قضا کی درخواست نہیں کی تھی۔ بلکہ امیر المؤمنین نے ہمیں اس منصب کے قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اور عمدۃ قضا قبول کرنے پر ہمیں پورے تحفظ کی یقین دہانی کرائی تھی۔ چنانچہ قاضی صاحب، بغداد جانے کے لئے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

موسیٰ بن عیسیٰ کو اطلاع ملی تو ایک جماعت کو ساتھ لے کر پیچھے لپکا اور کہنے لگا، ابو عبداللہ! خدا کے لئے رک جائیے۔ آپ سوچیں تو سہی کہ آپ نے میرے بھائیوں کو قید میں ڈال دیا تھا۔ قاضی نے کہا، اس لئے کہ انہوں نے ایسے مسئلے میں دخل دیا تھا جس میں انہیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک ان سب کو جیل نہیں بھیج دیا جاتا۔ اور نہ میں امیر المؤمنین مہدی کے پاس جا کر منصب قضا سے استعفا پیش کروں گا۔

موسیٰ نے بادل نخواستہ حکم دیا کہ ان سب لوگوں کو واپس جیل بھیج دیا جائے۔ اور خود اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک کہ جیل

نے واپس آکر سب کے جیل چلے جانے کی رپورٹ نہیں دیدی —
امیر نے اپنے ایک حواری کو حکم دیا کہ قاضی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر
آگے آگے چلو اور انہیں عدالت میں لے جاؤ — سب لوگ چل
پڑے یہاں تک کہ قاضی صاحب مسجد میں پہنچ کر مسند قضا پر جلوہ افروز
ہوئے — تم رسیدہ عورت کو حاضر کیا گیا، قاضی نے کہا، یہ تمہارا
فریق مخالف حاضر ہے — موسیٰ، عورت کے ساتھ قاضی کے سامنے
کھڑا تھا، اس نے کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں
لہذا، قیدیوں کو رہا کر دیا جائے — قاضی شریک نے کہا، ہاں! اب
انہیں رہا کرنے میں مضائقہ نہیں ہے۔

قاضی نے کہا، آپ اس عورت کے دعوے کے بارے میں کیا کہتے
ہیں؟ — موسیٰ نے کہا، وہ سچ کہتی ہے — قاضی نے کہا، تو
کیا تم نے جو کچھ اس سے لیا ہے، وہ واپس کرو گے؟ — اور فوراً
اس کی دیوار حسب سابق تعمیر کر دو گے؟ — موسیٰ نے اقرار میں سر
ہلایا، تو قاضی نے عورت سے پوچھا، تیرا اس پر کوئی اور دعویٰ باقی ہے؟
— اس نے کہا، نہیں! اللہ تعالیٰ تمہیں برکت اور جزائے خیر عطا
فرمائے — قاضی نے کہا، تب پھر جاؤ — وہ عورت قاضی
اور اس کی قضا کو دعائیں دیتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔

قاضی شریک اس معاملہ سے فارغ ہوئے تو موسیٰ بن عیسیٰ کا ہاتھ پکڑ
کر اپنی جگہ بٹھایا اور کہنے لگے۔

السلام علیکم! جناب امیر — میرے لائق کوئی حکم؟
موسیٰ ہنستے ہوئے کہنے لگے — اب میں آپ کو کیا حکم
دوں؟

قاضی شریک نے کہا، جناب امیر! وہ شرعی فیصلے کا معاملہ تھا اور یہ
مفتگو ادب کا تقاضا ہے، امیر اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔
دور اسلام کے آغاز میں عدلیہ کا یہ مخلصانہ، باوقار اور جانب داری

سے پاک رویہ تھا، اور ججوں کی نظر میں ہر چھوٹا بڑا، امیر اور فقیر برابر تھا۔
اسی لئے اسلام ایک ایسی قوت بن کر ابھرا جو ممالک کے فتح کرنے
سے پہلے 'اپنے عدل و انصاف کی بدولت دلوں کو فتح کرتی تھی' —
اور دلوں کی بستیاں، اسے خوش آمدید کہنے کے لئے بے تابی سے انتظار کرتی
تھیں۔

اسلام نے بتا دیا کہ کسی شخص کو کسی بھی دوسرے شخص پر اگر فضیلت
حاصل ہے تو صرف طاعت الہی اور تقویٰ کی بنا پر ہے — اور نظام
مصطفیٰ نے حق کے سامنے 'انسانوں کے خود ساختہ تمام طبقاتی امتیازات کا
خاتمہ کر دیا۔

شریک بن عبداللہ بن ابی شریک کی کنیت ابو عبداللہ ہے — خطہ خراسان
کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے — ان کے دادا قاریہ کی جنگ میں شریک ہوئے
تھے — ابو جعفر منصور نے شریک کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا وہ اس عہدے پر فائز
رہے یہاں تک کہ مدی نے انہیں معزول کر دیا — ۷۷۱ھ ماہ ذوالقعدہ کے آغاز
میں بروز ہفتہ 'کوفہ میں راہی دار آخرت ہوئے — حضرت شریک ثقفی، قابل اعتماد
اور کثیر احادیث کے راوی تھے۔ ۱۲ فرفور

امیر حمزہ بن عبدالمطلب

اسلامی غیرت اور حریتِ فکر کا پیکر جمیل

ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں

شیرِ غرانِ سطوت پہ لاکھوں سلام

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیر اور
قریش کے دلاور جوان ابو عمارہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔۔۔۔۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال پہلے پیدا ہوئے۔۔۔۔۔ بعثت کے
تیسرے سال اسلام لائے۔۔۔۔۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے ساتھ رہے اور دل و جان سے خدمت کی۔۔۔۔۔ پھر ہجرت کا شرف
بھی حاصل کیا۔

ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کوہ صفا کے پاس تشریف فرما تھے۔۔۔۔۔ ابو جہل وہاں سے گزرا تو
اس نے آپ کے دین پر طعن و تشنیع کی۔۔۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔۔۔۔۔ عبداللہ بن جدعان تبی
کی آزاد کردہ کینز اپنے گھر میں تھی، اس نے یہ گفتگو سنی۔۔۔۔۔
ابو جہل ہرزہ سرائی کر کے چلا گیا اور بیت اللہ شریف کے پاس جا کر قریش کی
جہی ہوئی محفل میں بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے واپس آگئے، مکان انہوں نے گلے میں ڈالی
ہوئی تھی۔۔۔۔۔ ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر گھر جانے سے
پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے۔۔۔۔۔ پھر قریش کی محفل میں
جاتے، ان سے علیک سلیک کرتے اور گفتگو کرتے۔۔۔۔۔ وہ قریش کے
معزز ترین اور نہایت جری جوان تھے۔۔۔۔۔ جب مذکورہ کینز کے پاس
سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاٹھانہ مبارک میں

تشریف لے جا چکے تھے — کبیر نے کہا، ابو عمارہ! ابھی ابھی آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے ایسی ناشائستہ گفتگو کی ہے کہ اگر آپ سن لیتے تو یقیناً آپ کو بڑا صدمہ ہوتا — وہ یہاں تشریف فرما تھے، ابو جہل نے ان سے غیر منذب گفتگو کی، اور ان کی دل آزاری کی ہے — لیکن قریان جائیں علم اور شرافت کے کوہ گراں پر، انہوں نے جواباً ایک لفظ تک نہیں کہا۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اعزاز اور حسن خاتمہ منظور تھا، اس لئے امیر حمزہ جلال میں آگئے — ابو جہل سے دو دو ہاتھ کرنے والے ارادے سے، راستے میں کسی کے پاس ٹھہرے بغیر، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے، روانہ ہو گئے — مسجد حرام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ دوسرے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے — سیدھے اس کے پاس پہنچے اور پوری قوت کے ساتھ کمان اس کے سر پر دے ماری — اس کا سر بری طرح پھٹ گیا — پھر اسے چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے، تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے ہو؟ — کان کھول کر سن لو! میں ان کے دین پر ہوں — میں وہی کہتا ہوں، جو وہ فرماتے ہیں — اگر ہمت ہے تو میری بات کا رد کر کے دکھاؤ — ابو جہل کی امداد کرنے کے لئے نبو مخزوم کے کچھ لوگ اٹھ کر امیر حمزہ کی طرف بڑھے — ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، واللہ! میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی ناروا باتیں کہی ہیں — امیر حمزہ، نہ صرف اسلام کے جاں نثار سپاہی بنے، بلکہ تمام زندگی نصرت اسلام میں بسر کر دی۔

ان کے اسلام لانے پر قریش نے واضح طور پر محسوس کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و شوکت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے — اور یقیناً ان کی ایذا رسانیوں میں کسی حد تک کمی آگئی۔

جنگ بدر میں شریک ہوئے اور شجاعت و بہالت کے نئے باب رقم کئے

_____ انہوں نے نشانی کے طور پر شتر مرغ کا پر اپنے جسم پر سجایا ہوا تھا
_____ اس دن انہوں نے شیبہ بن ربیعہ اور طلحہ بن عدی کو واصل
جہنم کیا _____ ربیعہ کے قتل میں شریک ہوئے _____ غزوة بدر
میں مارے جانے والے مشرکین کا ایک تہائی حصہ حضرت امیر حمزہ بن
عبدالطلب _____ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے
ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچا۔

ان کا جھنڈا تاریخ اسلام کا پہلا جھنڈا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے باندھا _____ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں
اسد اللہ (شیر خدا) کا لقب دیا _____ جنگ احد میں انہوں نے مشرکین
کو شدید نقصان پہنچایا _____ اس دن آپ کے ہاتھوں میں چھ تلواریں
ٹوٹ گئیں _____ ۳ھ اسی جنگ میں شہید ہوئے _____ نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے انہیں سید الشهداء کا لقب
عطا فرمایا _____ جیر بن مطعم نے غلام وحشی نے انہیں دھوکے سے
شہید کیا

حضرت وحشی کا بیان ہے کہ میں حبشی تھا اور حبشیوں کے انداز میں
خنجر پھینکتا، میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا _____ جب لوگ حکم گتھا
ہو گئے تو میں امیر حمزہ کے انتظار میں بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے لگا _____ وہ
مجھے لوگوں کے درمیان سیاہی مائل سفید اونٹ کی طرح دکھائی دیئے وہ اپنی
تلوار سے لوگوں کو گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ رہے تھے، کوئی ان کے سامنے
ٹھرتا ہی نہیں تھا _____ اللہ تعالیٰ کی قسم! میں درخت یا پتھر کی آڑ لے
کر ان کے لئے تیار کھڑا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ وہ میری زد میں آئیں
_____ کہ اچانک مجھ سے پہلے سباع بن عبد العزیٰ سامنے آگیا
_____ امیر حمزہ نے دیکھا تو اسے لکارا اور ایک ہی وار میں اس کا کام
تمام کر دیا _____ اب میرے اور ان کے درمیان کوئی حائل نہ تھا
_____ میں نے خنجر اپنے ہاتھوں میں لے کر تولا، اور جب مجھے اطمینان

ہو گیا تو میں نے نشانہ لے کر خنجر پھینک دیا ————— جو سیدھا ان کی ناف کے نیچے جا کر لگا ————— انہوں نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ہمت جواب دے گئی ————— میں نے انہیں اسی حالت میں رہنے دیا، یہاں تک کہ وہ شہادت کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہو گئے ————— میں نے اپنا خنجر نکالا اور مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا ————— میرے آقا نے حسب وعدہ مجھے آزاد کر دیا۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ————— رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہوئیں کہ آپ کی مبارک داڑھی تر ہو گئی ————— آپ بکثرت ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کے لئے رحمت و رضوان کی دعا کرتے تھے۔

یہ تھے شیر خدا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ————— جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا: تو ایک لمحے میں شرکا راستہ چھوڑ کر خیر کی طرف آگئے ————— لہذا انسان کو معصیت کیش اور غفلت شعار لوگوں کے تذکرے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ————— نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگوں کو کانیں پاؤ گے ————— جو ان میں سے جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ دین کا فہم حاصل کر لیں۔

۱۔ جیسے بن مسلم بن عدی قرظی، قرظی کے اکابر میں سے تھے ————— وہ تمام عربوں اور خاص طور پر قرظی کے انساب کے مانے ہوئے ماہر تھے ————— ایک دن کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ————— ان کا بیان ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ایمان مرے دل میں داخل ہوا ————— فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، ۵۷، ۵۸، یا ۵۹ء حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں وصال ہوا۔ ۱۲ فروری۔

۲۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوفل کے آزاد کردہ غلام تھے ————— غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ————— طائف کے وفد کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے — نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہمارے سامنے نہ آیا کرو — صلید کذاب کے قتل میں شریک ہوئے — جنگ یرموک میں شامل ہوئے — معص میں قیام پذیر ہوئے اور وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کی رحلت ہوئی۔

۳۔ یعنی شہداء کو باری باری لا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی — لیکن حضرت امیر حمزہ کی میت بدستور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رہی۔ ۱۲ شرف قادری

۴۔ یہ حدیث امام بخاری نے کتاب بدء الخلق، باب مناقب قریش میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

<http://t.me/Tehqiqat>

صبح صادق کا اجالا اور وجد آفریں تلاوت

میری عمر دس سال تھی — میں پورا قرآن کریم حفظ کر چکا تھا قرات و تجوید کمال کر لی تھی — اور اصول قرات کے مطابق خوب اچھی طرح پڑھ چکا تھا — اس وقت ہم بحیرہ کے دارالخلافہ دمنہوود نامی شہر میں تھے — میرے والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ اس خطے میں شرعی عدالت کے چیف جسٹس تھے — ان کی عادت یہ تھی کہ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسی نہ کسی مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے

ایک دفعہ میں اپنے والد ماجد کے پاس مسجد میں گیا اور رات بھر ان کی خدمت میں رہا — رات کے آخری حصے میں انہوں نے مجھے سحری کے لئے جگا دیا — پھر میں نے ان کے حکم پر نماز فجر کے لئے وضو کیا — والد ماجد تلاوت میں مصروف ہو گئے — سحری کے آخری لمحات میں انہوں نے بلند آواز سے دعائے ماثور پڑھی

اے اللہ! تیرے لئے ہی ہر تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا منور کرنے والا ہے — تیرے لئے ہی ہر ستائش ہے، تو آسمانوں اور زمین کی رونق دینے والا ہے — سب خوبیاں تیرے ہی لئے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کو مزین کرنے والا ہے — ہر شے تیرے ہی لئے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان میں اور ان پر رہنے والی مخلوقات کو قائم رکھنے والا ہے — تو برحق ہے اور تجھی سے حق ہے (آخر تک)

اتنے میں لوگ مسجد میں آنے لگے۔ اور ہم بالا خانے (دکھ) سے اتر کر نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اس وقت مسجدوں میں زیتون کے تیل کی قندیلیں روشن کی جاتی تھیں، ہر قندیل میں فتیلہ ہوتا تھا۔ ان قندیلوں میں لرزتی ہوئی دھیمی دھیمی روشنی جگمگا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ روشنی نہیں بلکہ اس کی جھلملاہٹ ہے۔ ان قندیلوں کے گرد تاریکیاں بل کھاتی ہوئی دکھائی دیتیں، دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا جیسے فضا میں روشن کرنیں بکھری ہوئی ہوں۔ اس سے رات کے اندھیرے تو نہیں چھٹ رہے تھے، البتہ رات کے حسین اسرار بے نقاب ہو رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں یوں دکھائی دیتا جیسے وہ قندیلیں کسی گہرے مطلب کو واضح کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ جیسے اس کی طرف اشارہ تو کر رہی ہوں، لیکن اسے پوری طرح ظاہر کرنے سے قاصر ہوں۔ آدمی یہ محسوس کئے بغیر نہ رہتا کہ وہ جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اس کی بجائے نظر کسی دوسری چیز پر جا پڑتی ہے۔ وہ قندیلیں خود راز نہیں جو کسی راز سے پردہ اٹھا رہی تھیں۔

صبح صادق کے اس ماحول میں جب رخصت ہونے والی تاریکی جانب مشرق سے پھوٹنے والی روشنی سے گلے مل رہی تھی۔ مسجد میں بیٹھنے والا اپنے جاگتے ہوئے شعور کے ساتھ صبح صادق کا یوں نظارہ کرتا جیسے فرشتے اس کے دل کو چھونے والے لطیف بادل لے کر زمین پر اتر آئے ہوں۔ اور اسے اپنے ہاتھوں رحمت و دل کشی سے شروع ہونے والے دن کا تحفہ دینے آئے ہوں۔

میں اس مسرت بھرے لمحے کو نہیں بھول سکتا۔ ہم مسجد کی مسکور کن فضا میں بیٹھے تھے اور قندیلیں یوں معلق تھیں جیسے ستارے اپنے مدار کے مختلف مقامات پر جگمگا رہے ہوں۔ اور یہ چراغ ان قندیلوں میں خیالات محبت کی طرح ہلکورے لے رہے ہوں۔ لوگ

پر سکون انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ان پر روحانی وقار کی چادر تنی ہوئی ہو۔۔۔۔۔ ہر انسان کے گرد اطمینان قلبی کا ہالہ بنا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اشیاء واضح طور پر دکھائی نہیں دیتی تھیں تاکہ انسانی ذہن انہیں روحانی احساس کا لبادہ پہنا دے۔۔۔۔۔ اور جیسے ہر چیز کے دو چہرے ہوں، ایک اس کا اپنا اور ایک دوسرا۔۔۔۔۔ اس طرح اس میں شاعرانہ حسن و جمال پیدا ہو جائے۔

میں زندگی بھر اس جمالیاتی ماحول کا کیف و سرور نہیں بھول سکتا۔۔۔۔۔ جب اچانک مسجد کی خاموش فضا میں، رات کے پردوں کو چیرتی اور سوزو گداز میں ڈوبی ہوئی دھیمی آواز سے گونج اٹھیں۔۔۔۔۔ آواز کیا تھی؟۔۔۔۔۔ دور آسمان کے افق کے نیچے گھنٹی بج رہی تھی۔۔۔۔۔ وہ ٹھہرے لمبے میں سورہ نحل کی آخری آیات پڑھ رہا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے:

”اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، بختہ تدبیر اور اچھی نصیحت سے اور ان سے بہترین طریقے پر بحث کرو۔۔۔۔۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے، اسے جو اس کی راہ سے بہکا۔۔۔۔۔ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔۔۔۔۔ اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔۔۔۔۔ اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لئے صبر بہتر ہے۔۔۔۔۔ اور اے محبوب! تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔۔۔۔۔ اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو۔۔۔۔۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں“ (القران) ۱۶/۱۳۸، ۱۳۵

جتنا اس قاری کو اپنی آواز پر کنٹرول تھا کسی طرب انگیز آواز والے کو کیا ہو گا؟۔۔۔۔۔ وہ قمری کی طرح اپنی آواز کے زیر و بم پر دسترس رکھتے ہوئے فضا میں نغمے بکھیر رہا تھا۔۔۔۔۔ وہ وجد آفرینی کی اس انتہا کو پہنچا ہوا تھا جو انسانی طاقت کے دائرہ امکان میں ہے۔۔۔۔۔ اس کی آواز

نے جو عجیب لذت و نشاط بخشی وہ کسی بھی موسیقی سے حاصل نہیں ہو سکتی
_____ اس کی مثال اس بلبل کی سی تھی جس پر چاندنی رات میں وجد کی
کیفیت طاری ہو اور اسی حالت میں نغمہ سرا ہو۔

اس کے نغموں میں عجیب ترتیب تھی، قوت بھی تھی اور نرمی بھی
_____ اس کی آواز میں ایک روحانی اضطراب تھا جیسے کسی غم کے
مارے ہوئے کو اچانک مسرت و شادمانی مل جائے _____ اس کی آواز
کی گونج دلوں میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی اور فضاؤں میں گردش کر رہی
تھی _____ اس کے لحن داودی کی بدولت یوں محسوس ہوتا جیسے واقعی
کلام الہی نے روح کو چھو کر رحمت کے پانی سے نہلا دیا ہو _____ اور وہ
اس پھول کی طرح جھوم رہی ہو جس کا حسین چہرہ باد صبا نے شبنم سے ابھی
ابھی دھلایا ہو

ہم نے تو تازہ قرآن پاک سنا جیسے کہ حضرت روح الامین ابھی لے کر
نازل ہوئے ہوں _____ وہ دل کش آواز دل و دماغ میں اس طرح
ریچ بس رہی تھی جیسے روح عالم، نظام کائنات میں جاری و ساری ہو
_____ اور دل ان آیات سے اس طرح فیض یاب ہوا تھا جیسے درخت
کی جڑ پانی حاصل کر کے اس کے ایک ایک حصے کو سیراب کر دیتی ہے۔
زمان و مکان جھوم رہے تھے _____ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خود منکلم
جل شانہ اپنے کلام میں جلوہ فرما ہے _____ اتنے میں صبح صادق نمودار
ہوئی _____ وہ اس طرح ٹھری ہوئی تھی جیسے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ
رہی ہو _____ کہ اس نور سے فیض یاب ہو کر تمام جہان کو منور کر دے
_____ ہم صبح صادق کے اجالے میں وجد آفریں تلاوت سن رہے تھے
_____ اور ہمارا وجد ان کہہ رہا تھا کہ مسجد سے باہر دنیا کا نام و نشان اور
ہر باطل مٹ چکا ہے _____ اور روئے زمین پر طیب و طاہر انسانیت
باقی ہے یا مسجد _____ جب انسان اپنی خاکی فطرت سے بلند ہو کر روحانی
لذت کے بلند مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس وقت اس قسم کے روحانی معجزے

دکھائی دیتے ہیں -

اس وقت کے کم سن لڑکے کو اس روحانی ماحول نے یہ ذمہ داری
سونپی کہ وہ مسجد میں آنے والے ہر شخص کو یہ پیغام پہنچائے —
چنانچہ میں ہر حال میں اس آواز کے حکم کا پابند ہوں جو کہتی ہے

أَدْعُرَالِي سَبِيْلِي رَبِّيكَ

تم اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ

اور میں ہر مصیبت میں اس آواز کی تعمیل کرتا ہوں جس نے کہا ہے

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

”اور تم صبر کرو“ اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے

(وحی القلم — للافعی تبصر ف)

معاف کرنے کی شاندار مثال

ابراہیم ابن مہدی — اور مامون

ابراہیم بن مہدی نے رے میں خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا — وہ ایک سال گیارہ مہینے اور بارہ دن بلا شرکت غیرے اس علاقے کے مالک رہے — اس دوران انہیں بہت سے واقعات پیش آئے — ایک واقعہ خود انہی کی زبانی سنئے:

مامون مجھے گرفتار کرنے کے لئے رے پہنچا — اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ جو مجھے گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے گا اسے ایک لاکھ درہم، بطور انعام دئے جائیں گے — مجھے اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں؟ — وہ ایک گرم دن تھا جب میں ظہر کے وقت گھر سے نکلا — مجھے کچھ پیتہ نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ — چلتے چلتے میں ایسی گلی میں جا نکلا جو آگے سے بند تھی — میں نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** — اگر میں واپس لوٹا تو میرے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے۔

میں نے گلی کے کنارے، ایک دروازے کے سامنے سیاہ قام غلام کو کھڑے ہوئے دیکھا — میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ جگہ ہے؟ جہاں میں ایک گھڑی آرام کر سکوں — اس نے کہا، ہاں! اور دروازہ کھول دیا — وہ اجلا اجلا گھر تھا جس میں بستر بچھے ہوئے تھے، تکتے قرینے سے لگے ہوئے تھے اور کچھ صاف ستھری کھالیں پڑی ہوئی تھیں — وہ مجھے بٹھا کر دروازہ بند کر کے چلا گیا — میں نے سوچا کہ شاید اسے انعام کی خبر مل چکی ہے اور اب وہ مخبری کرنے گیا ہے — اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسی حالت میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا — پھر وہ اچانک آگیا،

اس کے ساتھ ایک مزدور تھا، جس نے روٹی، گوشت، نئی ہڈیا، نیا گھڑا، نئے لوٹے اور ضرورت کی ہر چیز اٹھا رکھی تھی۔ اس نے سب چیزیں مزدور کے سر سے اتاریں اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے!۔ میں حجام ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ذریعہ معاش کی بنا پر مجھ سے گھن محسوس کریں گے۔ آپ یہ چیزیں لے لیجئے جنہیں کسی نے استعمال نہیں کیا۔

اور واقعی مجھے کھانے کی حاجت تھی۔ میں نے خود سالن تیار کیا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اتنا لذیذ کھانا کھایا ہو۔ اس نے کہا: کیا آپ مشروب شوق فرمائیں گے؟ اس سے غم دور ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لئے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے بالکل نیا جام اور مشروب لا کر پیش کیا اور کہنے لگا: اپنے لئے مشروب تیار کیجئے۔ میں نے اپنے لئے مشروب تیار کیا، وہ بہترین مشروب تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مٹی کی نئی پلیٹوں میں سجا کر مختلف پھل اور سبزیاں پیش کیں۔

پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے! اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک گوشے میں بیٹھ کر کیف و سرور حاصل کر لوں۔ میں نے کہا، اجازت ہے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا: جناب! میری یہ حیثیت تو نہیں ہے کہ میں آپ سے گانے کی فرمائش کر سکوں۔ لیکن آپ کے اخلاق کریمانہ پر میری عزت و حرمت لازم ہو چکی ہے۔ اگر آپ اپنے غلام کو یہ شرف بخشنا چاہیں تو بخش دیں۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہ مجھے گانا آتا ہے۔ کہنے لگا: سبحان اللہ! میرے آقا تو بہت مشہور شخصیت ہیں۔ آپ ابراہیم بن مہدی ہیں جو کل ہمارے خلیفہ تھے۔ آپ کی اطلاع دینے والے کے لئے مامون نے ایک لاکھ درہم کا اعلان کر رکھا ہے۔

اس کی بات سن کر میری نگاہوں میں اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی

اور مجھے ماننا پڑا کہ یہ شخص بڑے بلند کردار کا مالک ہے۔ پھر جلد ہی مجھے نیند نے آیا اور میں مغرب کے بعد جا کر کہیں بیدار ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ حجام کتنے نفیس مزاج کا مالک ہے؟ اور کتنے حسین اخلاق اور آداب کا حامل ہے؟ میں نے اٹھ کر ہاتھ اور منہ دھوئے اور اسے بھی جگا دیا۔ میرے پاس تھیلی میں قیمتی دینار تھے۔ میں نے وہ تھیلی اس کی طرف پھینک دی۔ اور اسے کہا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے پاس سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میری تم سے درخواست یہ ہے کہ اس تھیلی میں جو کچھ ہے اسے اپنی ضروریات پر خرچ کر لیتا۔ اور اگر میں خطرے کی زد سے نکل گیا تو تمہیں مزید انعام دوں گا۔ اس نے وہ تھیلی ناگواری کے ساتھ مجھے واپس کر دی۔ اور کہنے لگا، میرے آقا! آپ جیسے بڑے لوگوں کے ہاں ہم جیسے ناداروں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ زمانے نے مجھے آپ کا قرب عطا کیا ہے اور آپ کی تشریف آوری کا مجھے شرف بخشا ہے۔ کیا میں اس کا معاوضہ قبول کر لوں؟ خدا کی قسم! اگر آپ نے دوبارہ یہ پیشکش کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ چنانچہ میں نے تھیلی اپنے پاس رکھ لی، لیکن مجھے وہ بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔

جب میں چلنے لگا تو وہ کہنے لگا: آقا! یہ مکان آپ کے لئے دوسری جگہوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ اور آپ کے اخراجات کا مجھ پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہے۔ آپ میرے ہاں قیام کیجئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمادے۔ چنانچہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اسے کہا کہ اس تھیلی میں جو کچھ ہے اسے خرچ کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے چند دن بہترین خوشحالی میں اس کے پاس گزارے۔ پھر میں اس کے پاس قیام کرنے سے اکتا گیا اور مجھے اس پر بوجھ بننا اچھا نہیں لگا۔ وہ اشیاء ضروریہ لینے گیا تو میں وہاں سے چل دیا۔ میں نے تانہ لباس پہنا اور نکل کھڑا ہوا۔ جب میں شارع عام پر آیا تو مجھ پر

شدید خوف طاری ہو گیا — میں نے ایک پل سے گزرنے کا ارادہ کیا — میں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا — اچانک ایک فوجی نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگا، 'اسی کی ماموں کو تلاش ہے — یہ وہی فوجی تھا' جو کسی وقت میری خدمت کیا کرتا تھا۔ اس فوجی نے مجھے دبوچ لیا، میں نے اسے اس کے گھوڑے سمیت دھکا دے کر پھسلن میں پھینک دیا — وہ تماشا بن گیا، بہت جلد لوگوں کا ہجوم اس کے گرد جمع ہو گیا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تیزی سے پل کے پار پہنچ گیا — چلتے چلتے ایک گلی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہے — میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، 'اے عورتوں کی سردار! مجھے پناہ دو، کیونکہ میری جان کو خطرہ لاحق ہے — اس نے کہا، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں — اس نے مجھے ایک بالا خانے میں پہنچا دیا جس میں فرش بچھا ہوا تھا — اس نے کھانا لا کر پیش کیا اور کہنے لگی، 'اطمینان رکھئے! کسی کو آپ کے بارے میں علم نہیں ہے — اچانک دروازہ پوری قوت سے کھٹکھٹایا گیا — اس عورت نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر وہی شخص تھا جسے میں نے پل پر دھکا دیا تھا — اس کا سر پھٹا ہوا تھا، کپڑے خون آلود تھے اور گھوڑا غائب تھا — عورت نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا حادثہ پیش آ گیا؟ — اس نے کہا، وہ میرے ہاتھ آگیا تھا، لیکن بچ نکلا — اس نے وہ تمام واقعہ بیان کر دیا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا — عورت نے کچھ دھجیاں نکال کر اس کی مرہم پٹی کی، اس کے لئے بستر بچھایا، تکلیف کے باوجود وہ سو گیا — عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی — میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ تمہارے ساتھ ہی پیش آیا ہے — میں نے کہا، ہاں! اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، — اس کے باوجود اس نے میری عزت و تکریم میں اضافہ کر دیا — میں تین دن اس کے پاس رہا — پھر اس نے کہا، مجھے اس شخص سے تمہارے بارے میں تشویش ہے، مجھے خطرہ

ہے کہ کہیں یہ آپ کی مہتری نہ کر دے — اس لئے اپنی جان بچانے کی فکر کیجئے!

میں نے اس سے رات تک کی مہلت لی — رات ہوئی تو میں زنانہ لباس پہن کر اس کے گھر سے روانہ ہو گیا — ہماری ایک کتیز ہوا کرتی تھی، میں اس کے گھر چلا گیا — اس نے مجھے دیکھا، تو رو پڑی اور بڑے دکھ کا اظہار کیا، میری سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائی — اور یہ تاثر دے کر باہر چلی گئی کہ وہ ضیافت کا اہتمام کرنے کے لئے بازار جارہی ہے، میں نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیا — اچانک مجھے محسوس ہوا کہ مامون کے سوار اور پیادہ کارندوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے — کتیز نے مجھے ان کے حوالے کر دیا — مجھے آنکھوں کے سامنے موت ناچتی ہوئی دکھائی دی — مجھے اسی زنانہ لباس میں مامون کے پاس لے جایا گیا — مامون نے دربار عام لگایا اور مجھے اس کے سامنے پیش کر دیا گیا — جب میں اس کے سامنے پہنچا تو میں نے کہا، السلام علیکم! اے خلیفۃ المسلمین! — اس نے کہا، اللہ تجھے سلامتی، زندگی اور رعایت عطا نہ فرمائے — میں نے کہا، امیر المؤمنین! ذرا ٹھہریے — بے شک انتقام کے مالک کو بدلہ لینے کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے — اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر معافی سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، جیسے کہ میرا گناہ ہر گناہ سے برتر ہے — اگر آپ انتقام لیں تو یہ آپ کا حق ہے — اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کا احسان ہے — پھر میں نے یہ اشعار پڑھے:

ذَنْبِي إِلَيْكَ عَظِيمٌ وَأَنْتَ أَعْظَمُ مِنْهُ
فَخُذْ بِحَقِّكَ أَوْلَا فَاصْفِرْ بِمِحْلَتِكَ عَنْهُ
إِنْ لَمْ أَكُنْ فِي فِعَالِي مِنْ الْكِرَامِ فَكُنْهُ

○ میرا گناہ آپ کی نظر میں بڑا ہے، لیکن آپ تو اس سے بھی

بڑے ہیں

○ آپ اپنا حق لیں یا نہ لیں، اسے اپنے حلم سے معاف کر دیں

○ اگر میں اپنے افعال و کردار میں شریف لوگوں میں سے نہیں

ہوں، آپ تو اصحاب کرم کا رویہ اختیار کریں۔

مامون نے سرائٹھا کر میری طرف دیکھا، تو میں نے فوراً کہا:

أَتَيْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا وَأَنْتَ لِلْعَفْوِ أَهْلٌ
فَإِنْ عَفَوْتَ فَسِنٌّ وَإِنْ جَزَيْتَ فَعَدْلٌ

○ میں نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اور آپ معاف کرنے کے

لائق ہیں۔

○ اگر آپ معاف کر دیں تو احسان ہے، اور اگر سزا دیں تو

عین انصاف ہے۔

مامون پر رقت طاری ہو گئی۔ — مجھے اس کے انداز و اطوار سے

رحم و کرم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ — پھر مامون نے اپنے بیٹے عباس

اپنے بھائی ابواسحاق اور تمام حاضرین خواص کی طرف متوجہ ہو کر کہا —

تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ — سب نے میرے قتل کرنے کا مشورہ دیا، البتہ اس میں اختلاف تھا کہ کس طرح قتل کیا جائے — پھر مامون نے احمد بن ابی خالد سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ — اس نے کہا، امیر المؤمنین! اگر آپ اسے قتل کر دیں تو ہمیں ایسی مثال مل جائے گی کہ آپ جیسی شخصیت نے اس جیسے باغی کو قتل کیا ہو — اور اگر آپ اسے معاف کر دیں تو ہمیں اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ آپ جیسے باختیار بادشاہ نے ایسے مجرم کو معاف کیا ہو — مامون نے چھڑی کے ساتھ زمین کو کریدتے ہوئے متفکرانہ لہجے میں یہ شعر پڑھا

قَوِيُّ هُمْ قَتَلُوا أَمِيْمَ أَخِي

فَإِذَا رَمَيْتُ يُصِيبُنِي سَهْمِي

○ امیر! (بیوی کا نام) یہ میری قوم کے لوگ ہیں — جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے — اگر میں اسے نشانہ بناؤں تو مجھے ہی تیر لگے گا۔

میں نے اپنے سر سے دوپٹا اتار دیا اور بلند آواز سے نعرہ کبیر لگایا — اور کہا بخدا! امیر المؤمنین نے مجھے معاف کر دیا ہے — مامون نے کہا، چچا جان! آپ کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے — میں نے کہا، امیر المؤمنین! میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ میں معذرت بھی زبان پر نہیں لاسکتا — اور آپ کا فرمان اتنا عظیم ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا — آپ کے معاف کرنے کے سامنے میرے شکرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے —

تاہم میں اتنا ضرور کہوں گا

إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْمَكَارِمَ حَازَهَا فِي صَلْبِ آدَمَ لِلْأَمَامِ السَّابِعِ
مِلَّتْ قُلُوبُ النَّاسِ مِنْهُمَهَا بَعْدَ وَتَطَلَّ تَكَلُّوهُمْ بِقَلْبِ خَاشِعٍ
مَا إِنَّ عَصِيَّتِكَ وَالْغَوَاةَ تُبَدِّلُنِي أَسْبَابًا بِهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ طَائِعٍ
فَعَفَوْتَ عَنِّي لَمْ يَكُنْ عَنِّي قَتْلُهُ عَفْوٌ وَلَمْ يَشْفَعْ إِلَيْكَ بِشَارِعٍ

وَرَحِمْتَ أَطْفَالَ كَافِرِخِ الْقَطَا

وَحَنِينِ وَالِدَاةٍ بِلْتِ جَارِعِ

بے شک کمالات کے خالق نے جملہ فضائل، آدم علیہ السلام کی پشت میں ساتویں امام (مامون) کے لئے جمع کر دیئے ہیں لوگوں کے دل اس کے رعب اور دبدبے سے بھرے ہوئے ہیں، اور (اے امیر المؤمنین) آپ خضوع و خشوع والے دل سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں

جب گمراہوں کے اسباب میری امداد کر رہے تھے اس وقت بھی میں نے ایک فرمانبردار کی نیت سے آپ کی نافرمانی کی تھی (یعنی میری نیت یہی تھی کہ دوبارہ فرمانبردار بن جاؤں گا)

آپ نے ایسے شخص کو معاف کیا کہ اس جیسوں کو معاف نہیں کیا جاتا اور اس نے کوئی سفارشی بھی تو پیش نہیں کیا تھا۔

آپ نے بھٹ تیز (ایک پرندہ) کے چوزوں ایسے بچوں اور

پریشان عقل ماں کے رونے پر رحم کیا

مامون نے کہا، آج تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے — میں نے تمہیں معاف کر دیا — اور تمہارا مال اور تمہاری جائیداد تمہیں واپس کر دی۔

میں نے کہا:

رَدَدْتِ مَالِيَّ وَلَمْ تَبْخُلْ عَلَيَّ بِهِ وَقَبْلَ رَدِّكَ مَالِيَّ قَدْ حَقَنْتَ دَمِي
فَلَوْ بَدَلْتُ دَمِي، أَبْغَى رِضَاكَ بِهِ وَالْمَالِ حَتَّى أَسَلَ النَّعْلَ مِنْ قَدَمِي
مَا كَانَ ذَلِكَ سِوَى عَارِيَةٍ رَجَعَتْ إِلَيْكَ لَوْلَمْ تُعْرِهَا كُنْتَ لَمْ تُكْمِ

فَإِنْ جَحَدْتُكَ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ كَرَمٍ

إِنِّي إِلَى اللُّؤْمِ أَوْلَى مِنْكَ بِالْكَرَمِ

- آپ نے میرا مال مجھے واپس کر دیا اور کسی بخل سے کام نہیں لیا، اور میرا مال واپس کرنے سے پہلے آپ نے میری جان بخشی کی
- اگر میں آپ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنا خون اور سارا مال بھی خرچ کر دوں، یہاں تک کے پاؤں کے جوتے بھی اتار دوں
- تو یہ عاریتہ دی ہوئی چیز ہوگی جو آپ کی طرف لوٹ جائے گی، اور آپ اسے عاریتہ نہ دیں تو آپ پر کوئی ملامت نہ ہوگی (یعنی میری جان اور مال آپ کی ملکیت ہیں، اگر میں آپ کو پیش بھی کر دوں تو یہ آپ ہی کی چیز آپ کے حوالے کرنا ہوگی)

Click

○ آپ نے ازراہ کرم جو کچھ مجھے عنایت کیا ہے، میں اگر اس کا انکار کر دوں (اور شکریہ ادا نہ کروں) تو آپ جس قدر جود و سخا کے قریب ہیں، میں اس سے زیادہ کینگی کے قریب ہوں گا (یعنی یہ میری انتہائی رذالت ہوگی)

مامون نے کہا، کچھ کلام موتیوں جیسے ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی کلام ہے۔ اس نے مجھے خلعت عطا کی — اور کہا، چچا ابو اسحاق اور عباس (مامون کے بھائی اور بیٹے) نے تو تمہارے قتل کا مشورہ دیا تھا — میں نے کہا: امیرالمومنین! انہوں نے ناصحانہ و ہمدردانہ مشورہ دیا تھا — اور آپ نے وہ کچھ کیا جو آپ کے شایان شان تھا — اور آپ نے میری توقع پوری کر کے میرا خوف و ہراس دور کر دیا — مامون نے کہا، تم نے جاندار عذر پیش کر کے میرا تمام غصہ ختم کر دیا — میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں سفارشیوں کے احسان کی تلخی نہیں چکھائی

پھر مامون نے طویل سجدہ کیا — اور سر اٹھا کر کہا، چچا! آپ جانتے ہیں، میں نے سجدہ کیوں کیا؟ — میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے کہ اس نے آپ کو آپ کی حکومت کے دشمن پر غلبہ عطا کیا — مامون نے کہا، میرا یہ ارادہ نہ تھا، بلکہ اس امر کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہیں معاف کر دوں — اب تم اپنی سرگزشت بیان کرو — میں نے اپنے حالات تفصیلاً بیان کئے — مامون نے حکم دیا کہ فوجی کی بیوی کو حاضر کیا جائے — اور یہ کہتے ہوئے اسے اپنے محل میں قیام کی جگہ دی کہ یہ دانشور خاتون ہے اور اس لائق ہے کہ اہم امور انجام دے — حجام کو بھی حاضر کیا اور اسے کہا،

کہ تمہارے اخلاق کی عظمت سامنے آ چکی ہے — اور اس کا تقاضا ہے
کہ تمہیں بھرپور انعام و اکرام سے نوازا جائے — اسے بہترین لباس
پہنایا گیا — اور تاحیات سالانہ ایک ہزار دینار اس کا وظیفہ مقرر کر دیا
گیا۔

بچنے لگانے والا اور خون نکالنے والا - ۱۲ ق

عراق کے عباسی خلفاء میں مامون الرشید ساتویں خلیفہ تھے (۱) سراج عبداللہ
ابن محمد (۲) ابو جعفر منصور (۳) مہدی (۴) ہادی (۵) ہارون الرشید (۶) امین
(۷) مامون (تاریخ الخلفاء) شرف قادری

<http://t.me/Tehqiqat>

نعرہ حق

قاضی عمر بن حبیب اپنی زندگی کا عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں

ایک دن میں ہارون الرشید کی محفل میں حاضر ہوا — وہاں ہارون کے رشتے داروں اور حاشیہ برداروں کا ہجوم تھا — وہ بلند آواز سے ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، شور اور غوغا کا یہ عالم تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی — ہر شخص غالب آنے کی فکر میں تھا — دونوں طرف سے دلائل و براہین پیش کئے جا رہے تھے — ہارون الرشید خاموشی سے سرجھکائے ان کی گفتگو اور بحث مباحثہ سن رہا تھا — ان میں سے ایک شخص نے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی — اس کا مقابلہ راضی نہ ہوا، اس نے نہ صرف حدیث پر اعتراض کیا بلکہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا — بحث شدت اختیار کر گئی — ان میں سے ایک شخص نے کہا، ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث قابل اعتماد اور لائق قبول نہیں ہے — ایک دوسرے شخص نے کہا، بلکہ مردود ہے — پھر کیا تھا، انہوں نے حدیث اور اس کے راوی کی کھلے بندوں تکذیب کی شروع کر دی۔

میں نے دیکھا کہ حدیث کا انکار کرنے اور اس پر طعن کرنے میں ہارون الرشید نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا اور ان ہی کی تائید کی —

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ظاہر ہے کہ اعتراض کرنے والوں کی دلیل کو قوت حاصل ہو گئی — اور حضرت ابو ہریرہ اور ان کی حدیث کی حمایت کرنے والوں کا پلڑا جھک گیا۔

بخدا! جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ کے صحابہ پر طعن و تشنیع سنی تو مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا — مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کون ہوں؟ — ہارون الرشید کون ہے؟ — اور اس کی سلطنت اور گرفت کیا ہے؟ — مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ کے صحابہ کرام کی غیرت چھا گئی — میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مجھے پتا نہیں کہ میں کس طرح کھڑا ہوا؟ — یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک آسمانی طاقت میرے جسم میں حلول کر گئی ہے اور اس نے مجھے نئی روح بخش دی ہے۔

میں نے اونچی آواز میں گفتگو کا آغاز کیا، میری آواز میں خوف اور بزدلی کی ہلکی سی جھلک بھی نہ تھی۔
میں نے کہا:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح ہے — اور حضور کے صحابی، حضرت ابو ہریرہ معتبر راوی ہیں — وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرنے میں سچے ہیں اور ان کا بیان صحیح ہے۔

میری گفتگو کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ہارون الرشید نے مجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھا — اس کی نگاہوں میں دھمکی تھی — اور

اس کی آنکھوں سے انتقام اور سزا کے شعلے لپک رہے تھے — حاضرین میں سے ہر شخص اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ عمر بن حبیب نے خلیفہ کے غضب کو چیلنج کیا ہے — لہذا آج خلیفہ کے انتقام اور اس کی سخت گیری سے بچ نہیں سکے گا — آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔

مجلس برخاست ہو گئی اور میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا — میں نے ہارون الرشید سے ہونے والی گفتگو پر غور کیا — اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی نصرت و حمایت کی توفیق عطا فرمائی — تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک غلام نے دروازہ کھٹکھٹایا — میں نے پوچھا کون ہے؟ — اس نے کہا، 'عمر بن حبیب! امیر المؤمنین آپ کو یاد کر رہے ہیں — آپ کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں' آپ کفن پہن لیں اور مردوں کو لگائی جانے والی خوشبو لگالیں — رب کعبہ کی قسم! میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جاتے ہوئے وصیت بھی کرتے جائیں

قاضی عمر نے غلام کی بات سنی تو ان کے دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی — انہوں نے ذرہ برابر خوف یا گھبراہٹ محسوس نہ کی — بلکہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر، اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے نبی کے صحابی کا دفاع کیا ہے — میں نے اعلان کیا ہے کہ تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے صحابہ کرام کے خلاف، زبان طعن دراز نہیں کی

جاسکتی — میں نے تیری رضا کے لئے ان کی نصرت و حمایت کی ہے — تو ہی مجھے بادشاہ وقت سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی حفاظت و عنایت کا سایہ عطا فرما۔

دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ایک روحانی جھونکا قاضی کے دل میں اتر گیا — اور انہیں اطمینان و سکون بخش گیا — خوف و ہراس کا نام و نشان نہ تھا — قاضی کہتے ہیں کہ جب مجھے ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا، آستین چڑھائے ہوئے، تخت شاہی پر بیٹھا تھا — اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سامنے چڑے کا فرش بچھا ہوا تھا، جس پر مجرموں کا سر قلم کیا جاتا تھا۔

جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا — قریب تھا کہ غصے کی شدت کی بنا پر پھٹ جائے — اس نے میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن سے غضب اور انتقام کے شرارے پھوٹ رہے تھے — کہنے لگا، عمر بن حبیب! آج تم نے جس طرح میری بات کا رد کیا ہے کسی کو اس کی جرأت نہیں ہو سکی — تم نے بھرے مجمع میں میرے آگے بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے۔

اس کا غیظ و غضب اور اس کی دھمکی میرے عزم کا کچھ نہ بگاڑ سکی — بلکہ میری طاقت اور صاف گوئی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا — میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین! — جو بات آپ نے کہی، اس کی طرف آپ نے میلان ظاہر کیا اور اس میں حاضرین سے موافقت کی — یہاں تک کہ اعتراض کرنے والوں کا پلڑا بھاری ہو گیا — وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے مقام کے

لائق نہیں ہے۔

اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی حدیث کے روایت کرنے والے جھوٹے ہوں، جیسے کہ ان لوگوں نے کہا — تو خدا کی پناہ! شریعت باطل قرار پائے گی — فرائض، نماز، روزے، نکاح، طلاق اور حدود کے احکام مردود اور نامقبول ٹھہریں گے۔

ہارون الرشید سر جھکائے سن رہا تھا، اس پر حق کی ہیبت چھاگئی اور وہ پرسکون ہو گیا — یوں دکھائی دیتا تھا کہ وہ پہلے والا ہارون الرشید نہیں رہا — میں نے مزید اونچی آواز میں کہا، امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ سے ڈریئے! اس بات کو تسلیم کرنا تو کجا، اسے سنتا بھی گوارا نہ کیجئے! — رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں غیرت پر سب لوگوں سے زیادہ آپ کا حق ہے۔

ہارون الرشید نے قاضی عمر کی گفتگو سنی تو یوں معلوم ہوا کہ ایک معظم فرشتے کی روح اس میں حلول کر گئی ہے، جس نے اس کے شیطان کو بھگا دیا ہے — اسے انجانی قوت نے اپنی گرفت میں لے لیا — وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔
بتے ہوئے آنسوؤں میں کہنے لگا اور تین بار یہ الفاظ کہے:

عمر بن حبیب! تم نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے

خدا کی قسم! اگر میں اپنے فیصلے پر عمل در آمد کر بیٹھتا تو برباد ہو جاتا — کل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کیا جواب دیتا؟ — ہارون الرشید کے حکم پر انہیں دس ہزار

درہم بطور انعام دئے گئے — قاضی عمر کامیابی کے پھریرے لہراتے ہوئے واپس آئے — انہوں نے کلمہ حق کہنے اور پرچم شریعت بلند کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد اسی طرح ہوتا ہے — وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے کو ایسی روح عطا کرتا ہے جس پر خوف اور بزدلی کا سایہ بھی نہیں پڑتا — وہ بندہ خدا ہر جگہ کسی ڈر اور خوف کے بغیر، ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ حق بلند کر دیتا ہے — اس کی نگاہوں میں دنیا اور مال و جاہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی — اس کی نظر میں صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہوتا ہے — جو مخلوق کے دلوں کو اپنی مشیت اور پسند کے مطابق پھیر دیتا ہے — وہ اللہ والا، خلیفہ وقت کو بھی شریعت کے اوامر و نواہی سنانے سے نہیں گھبراتا

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے:
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ تو رزق کے لئے رکاوٹ بنتے ہیں اور نہ ہی موت کو وقت سے پہلے لے آتے ہیں۔

اس حدیث کو امام امبہانی نے روایت کیا — اور یہ ایک ضعیف حدیث کا حصہ ہے — جیسے کہ امام منذری نے الترفیب والترہیب ج ۳ ص ۲۳۱ میں بیان کیا — میں کہتا ہوں کہ علماء کے نزدیک یہ طے شدہ امر ہے کہ فضائل اعمال میں منعیات حدیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے — البتہ احکام کے ثابت کرنے اور طلال و حرام میں معتبر نہیں ہوتی۔ ۱۲ فروری

<http://t.me/Tehqiqat>

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حاتم طائی کی سخاوت

حاتم طائی کی بیوی ماویہ کا بیان ہے :

ایک دفعہ ہولناک قحط پڑا — جس کی بنا پر زمین سکڑ گئی — آسمان کے اطراف میں غبار ہی غبار دکھائی دینے لگا — آیاؤں نے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا، کیونکہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں اترتا تھا — خشک سالی نے مال بیکار کر دیا — اور ہمیں ہلاکت کا یقین ہو گیا — بخدا! سردیوں کی ایک طویل رات تھی — ہمارے بچے عبداللہ، عدی، اور سفانہ بھوک کے ہاتھوں چیخ رہے تھے — حاتم نے دو بچوں کو سنبھال لیا اور میں نے بچی کو اٹھالیا — حاتم، مجھے باتوں سے بہلانے لگے — میں نے ان کا مقصد سمجھتے ہوئے سونے کی کوشش شروع کر دی۔

جب ستارے ڈوب گئے تو اچانک کسی نے گھر کا پردہ اٹھایا اور چھوڑ دیا — حاتم نے پوچھا کون ہے؟ — ایک عورت کی آواز آئی کہ میں آپ کی فلاں پڑوسن ہوں — میں اپنے بچوں کو بھیڑیوں کی طرح چلاتے ہوئے چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں — اے ابو عدی! مجھے آپ کے سوا کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آیا — حاتم نے کہا انہیں جلدی لے آ، اللہ تعالیٰ نے تیری اور ان کی خوراک کا انتظام کر دیا ہے — چند لمحوں میں وہ بچوں کو لے آئی — دو اس نے گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور چار اس کے ساتھ چل رہے تھے — یوں دکھائی دیتی تھی جیسے وہ شتر مرغ ہو اور اس کے بچے اس کے ارد گرد چل رہے ہوں۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حاتم نے اٹھ کر اپنے گھوڑے کی گردن پر چھری چلا دی اور وہ گر گیا۔ پھر اس کی کھال اتار کر چھری عورت کو تھما دی اور اسے کہا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔۔۔ ہم سب مل جل کر گوشت بھوننے اور کھانے لگے۔۔۔ حاتم قبیلے کے ایک ایک گھر گئے اور کہنے لگے، لوگو! آؤ اور دعوت کے مزے لوٹو۔۔۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔۔۔ اور حاتم کپڑے میں لپٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔۔۔ خدا کی قسم! انہوں نے ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، حالانکہ انہیں ہم سے زیادہ گوشت کی حاجت تھی۔۔۔ صبح ہوئی تو زمین پر گھوڑے کی ہڈیوں اور کھروں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔۔۔ حاتم اپنی اس کارروائی پر بڑے سرور تھے۔

انہوں نے مسرت کے عالم میں کہا:

أَمْأَوْيَىٰ إِنَّ الْمَالَ عَادٍ وَرَائِحٌ

وَيَبْقَىٰ مِنَ الْمَالِ الْأَحَادِيثُ وَالذِّكْرُ

ماویہ! مال آنے جانے والی چیز ہے، مال کے بدلے باتیں اور

یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔

أَيَا ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَةَ مَالِكٍ وَيَا ابْنَةَ ذِي الْبُرْدَيْنِ وَالْقُرَيْشِ الْوَرْدِ
إِذَا مَا طَلَبْتَ الزَّادَ فَالْتَبَسِي لَهُ أَكِيدًا فَإِنِّي لَسْتُ أَكُلُهُ وَحْدِي
أَنَا طَارِقًا أَوْ جَارِبِيَّتٍ فَإِنِّي أَخَافُ مَعْبَاتِ الْأَحَادِيثِ مِنْ بَعْدِي
وَإِنِّي لَعَبْدٌ الضَّيْفِ مَا دَامَ ثَاوِيًا وَمَا فِي الْأَتْلِكِ مِنْ شَيْبَةِ الْعَبْدِ

○ اے عبداللہ اور مالک کی بیٹی! اور اے دو چادروں والے اور سرخ گھوڑے والے کی بیٹی!

○ جب تو زاد راہ تلاش کرے تو اسے کھانے والا بھی ڈھونڈ، کیونکہ میں اسے اکیلا نہیں کھاؤں گا

○ کوئی رات کو آنے والا بھائی یا پڑوسی تلاش کر، کیونکہ میں بعد میں بنائی جانے والی باتوں سے ڈرتا ہوں

○ مہمان جب تک قیام کرے میں اس کا غلام ہوں، اور مجھ میں غلاموں والی یہی ایک خصلت ہے

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

مِنْ عَابِدٍ بِخَيْلٍ

”اللہ تعالیٰ کو جاہل سخی، بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے“

یہ حدیث امام ترمذی نے باب ماجاء فی الخفاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ امام بیہقی نے حضرت جابر سے شعب الایمان میں اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ضعیف سندوں سے روایت کی۔ تاہم یہ سندیں ایک دوسری کو تقویت دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں یہ حدیث معنوی اعتبار سے صحیح ہے۔ ۱۲ فروری

جامع الکلم

وہ احادیث جن کے مختصر کلمات میں جہان معانی پوشیدہ ہے

پہلی حدیث

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے — اور صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، کہ ہمارے پاس آؤ — صحابہ کرام آ کر بیٹھ گئے تو فرمایا، یہ رب العالمین کے رسول جبریل امین ہیں — انہوں نے ہمارے دل میں القاء کیا ہے کہ

کوئی شخص بھی اپنی قسمت کا پورا رزق حاصل کئے بغیر نہیں مرے گا — جب رزق کے ملنے میں دیر ہو جائے — تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حسن طلب سے کام لو — رزق کی تاخیر تمہیں ہرگز اس بات پر پرانگیختہ نہ کرے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے سے رزق حاصل کرو — کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی فرمانبرداری سے ہی حاصل کی جاسکتی ہیں —

حضرت حذیفہ بن یمان جسی اکابر صحابہ میں سے ہیں — غزوة خندق میں حاضر ہوئے، اور اس موقع ہر شاندار کارنامہ انجام دیا — اس کے بعد دیگر غزوات میں بھی شریک ہوئے — حضرت عمر فاروق نے انہیں مدائن کا حاکم مقرر کیا — تاحیات وہیں رہے — حضرت عثمان غنی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی بیعت کی — اس کے چالیس روز بعد حضرت حذیفہ کا وصال ہوا
— یہ ۵۳۶ء کا واقعہ ہے — حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا
اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کی خبر دی — بحوالہ اصحابہ بتصرف —
۱۲ فروری

حافظ منذری نے الترغیب و الترہیب ج ۲ ص ۵۳۵ میں فرمایا: اس حدیث
کے تمام راوی ثقہ ہیں — سوائے قدامہ بن زائدہ کے — ان
کے بارے میں مجھے جرح یا تعدیل مستحضر نہیں ہے۔ ۱۲ فروری

<http://t.me/Tehqiqat>

دوسری حدیث

حضرت عبادہ بن صامت - رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات اقدس کی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! — میری امت کے کچھ لوگ فخر و تکبر اور لہو و لعب میں رات بسر کریں گے — صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے — یہ ان کے ان جرائم کی سزاگی جو انہوں نے حرام چیزوں کو حلال جانا — گانے بجانے والی رقاصائیں رکھیں — شراب پی — سود کھایا — اور ریشم پہننا۔

حضرت عبادہ بن صامت، ابو الولید انصاری خزرجی ہیں — بیت عتبہ میں مقرر کردہ خبیوں میں سے ایک تھے — غزوہ بدر اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے — فتح مکہ میں شامل ہوئے — مکہ کے چوتھائی حصے کے امیر تھے — حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت معاذ اور حضرت ابوالدرداء کے ساتھ اہل شام کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا — فلسطین میں قیام پذیر ہوئے — طویل القامت اور رحیم تھے — ۵۳۳ھ میں رملہ میں وصال فرمایا - ۱۲ فروری

یہ حدیث امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبد اللہ نے روایت کی — حافظ منذری الترفیب و التریب ج ۳ ص ۲۶۳ میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے — میں کہتا ہوں اس حدیث کے شواہد موجود ہیں جو معنوی طور پر اسے تقویت دیتے ہیں — لہذا یہ صحیح ہے - ۱۲ فروری

تیسری حدیث

حضرت ابو سعید خدری ؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو! صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہمارے دل بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم باہمی گفتگو کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھنے پر ہی مصر ہو تو راستے کو اس کا حق دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ! راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا: نگاہوں کو جھکانا۔ ایذا رسانی سے باز رہنا۔ سلام کا جواب دینا۔ نیکی کا حکم دینا۔ اور برائی سے منع کرنا۔

۱۔ حضرت ابو سعید خدری کا نام سعد بن مالک بن شان انصاری خزرجی ہے۔ کیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر انہیں کم عمر قرار دیا گیا۔ اس غزوہ میں ان کے والد ماجد شہید ہوئے۔ حضرت ابو سعید بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ افاضل صحابہ میں سے تھے۔ احادیث مبارکہ بکثرت یاد تھیں۔ ۷۷۳ھ میں وصال ہوا۔ سن وصال کے بارے میں کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ ۱۲ فروری

چوتھی حدیث

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 'قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ————— یا تو تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ ضرور تم پر اپنا عذاب بھیجے گا ————— پھر تم اس سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی ————— یہ حدیث حسن ہے' اسے امام ترمذی نے روایت کیا

پانچویں حدیث

حضرت ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل امور پر بیعت کی۔

۱ باوجودیکہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی ————— ہم تنگی اور آسانی، خوشی اور ناخوشی، ہر حال میں امیر کا حکم سنیں گے ————— اور اس کی اطاعت کریں گے۔

۲ ہم خلافت کے مسئلے پر اس کے مستحق سے جھگڑا نہیں کریں گے (فرمایا) مگر اس صورت میں کہ تم کھلا ہوا کفر دیکھو ————— جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہو۔

۳ ہم جہاں بھی ہوں حق بات کہیں گے ————— اور راہ خداوندی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے ————— (صحیحین)

چھٹی حدیث:

حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ وہ انہیں لے کر اس طرح گھومے گا، جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور پوچھیں گے اے فلاں! تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ میں یہ سب کچھ کرتا تھا۔ لیکن میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اور برائی سے منع کرتا تھا مگر خود اس کا مرتکب ہوتا تھا (صحیحین)

حضرت اسامہ اور ان کے والد ماجد حضرت زید، دونوں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد تھی۔ انہیں ابو زید بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ حضرت اسامہ اسلام میں پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر بیس سال تھی۔ یہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں

ایک عظیم لشکر کا کمانڈر بنایا تھا — حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنه نے ان کی کمان کو برقرار رکھا — حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
عنه ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے — اور انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ
ولیفہ دیتے تھے — ۵۴ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کی
خلافت کے آخر میں ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا — ان کے فضائل
بہت ہیں — اور ان کی روایت کردہ حدیثیں مشہور ہیں — ۱۲ فروری

<http://t.me/Tehqiqat>

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

زمزم کی کھدائی

عبدالمطلب بن ہاشم کہتے ہیں: میں حطیم کعبہ میں سو رہا تھا
— ایک شخص میرے پاس آکر کہنے لگا، طیبہ کی کھدائی کرو —
میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ وہ جواب دیئے بغیر چلا گیا — دوسرے
دن میں پھر اسی جگہ جا کر سو گیا — وہی شخص آکر کہنے لگا، برہ کی
کھدائی کرو — میں نے کہا، برہ کیا ہے؟ تو وہ پھر جواب دیئے بغیر چلا
گیا — تیسرے دن میں پھر اسی جگہ جا کر سو گیا — وہ پھر آیا
اور کہنے لگا، زمزم کی کھدائی کرو — اگر اس کی کھدائی کرو گے تو تمہیں
ندامت نہیں ہوگی — میں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ — اس
نے کہا — وہ ایسا کنواں ہے جو کبھی خشک نہیں ہو گا — اور
نہ ہی کبھی اس کی برائی کی جائے گی — وہ عظمت والے حاجیوں کو
یراب کرے گا — وہ ان مقامات کے درمیان ہے (۱) فرث (۲) دم
(۳) نقرۃ الغراب الا عسم (۴) قوتہ النمل

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب خواب میں دکھائی دینے والے شخص نے
عبدالمطلب کو اس کنوئیں کی اہمیت سے آگاہ کر دیا — اور اس کی جگہ
کی نشاندہی کر دی — اور انہیں احساس ہو گیا کہ اس نے سچ کہا ہے
— تو دوسرے دن کدال لے کر پہنچ گئے — ان کے ساتھ ان کے
بیٹے حارث بن عبدالمطلب بھی تھے — اس دن ان کے علاوہ کوئی
دوسرا بیٹا ساتھ نہ تھا — انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔

جب کنوئیں کی منڈیر دکھائی دی تو انہوں نے مسرت سے سرشار ہو

۱۲۶
کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔۔۔ قبیلہ 'قریش' کے افراد کو ہٹا چل گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔۔۔ سب اکٹھے ہو کر آئے، اور کہنے لگے، 'عبدالمطلب! یہ ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔۔۔ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔۔۔ اس میں ہمیں بھی شریک کیجئے!۔۔۔ انہوں نے کہا، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔۔۔ یہ خصوصیت تمہیں نہیں، صرف مجھے حاصل ہوئی ہے۔۔۔ اور یہ کنواں صرف مجھے دیا گیا ہے۔۔۔ کہنے لگے، آپ انصاف سے کام لیجئے!۔۔۔ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس سلسلے میں مقدمہ لڑیں گے۔۔۔ عبدالمطلب کہنے لگے، تم کسی کو فیصل مقرر کر لو، میں اپنا موقف اس کے سامنے پیش کروں گا۔۔۔ انہوں نے ملک شام میں رہنے والی بنو سعد کی کاہنہ کا نام تجویز کیا

۔۔۔ عبدالمطلب نے کہا مجھے منظور ہے۔

عبدالمطلب سوار ہو کر چل پڑے، ان کے ساتھ بنو امیہ اور بنو عبد مناف کے چند افراد تھے۔۔۔ قریش کے ہر قبیلے کے چند افراد بھی ساتھ ہو لیے۔۔۔ راستے میں بے آب و گیاہ جنگلات تھے۔۔۔ چلتے چلتے حجاز اور شام کے درمیان ایسے ہی ایک لٹ و دق صحراء میں پہنچے ہی تھے کہ عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔۔۔ پیاس کی شدت کا یہ حال تھا کہ موت سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔۔۔ انہوں نے اپنے ہم سفر قریش کے قبیلوں سے پینے کے لیے پانی مانگا۔۔۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔۔۔ اور کہنے لگے، ہم خود اس وقت بے آباد جنگل میں ہیں، اور ہماری جانوں کو بھی اسی مصیبت کا خطرہ ہے جو تمہیں درپیش ہے۔

عبدالمطلب نے جب ان کا رویہ دیکھا — اور اس خطرے کا جائزہ لیا جو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو درپیش تھا — تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، تمہارا کیا خیال ہے؟ — انہوں نے کہا، ہمارا خیال وہی ہے جو آپ کا ہے، آپ جو مناسب سمجھیں، ہمیں حکم دیں — عبدالمطلب نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی پوری طاقت صرف کر کے اپنے لیے گڑھا کھود لے — جب کسی شخص کا آخری وقت آجائے تو اس کے ساتھی اسے اس گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیں — یہاں تک کہ آخر میں ایک شخص باقی رہ جائے — پوری جماعت کے ضائع ہونے سے ایک شخص کا ضائع ہونا اور بے گورو کفن رہ جانا آسان ہے — سب نے اس تجویز کو صحیح قرار دیا — اور ہر شخص اپنے لیے گڑھا کھود کر اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ پیاس کے ہاتھوں سب سے پہلے کس کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے؟

چند لمحے ہی گزرے تھے کہ عبدالمطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارا موت کے سامنے یوں ہتھیار ڈال دینا — سزا ملتی کر دینا، اور اپنے لیے کچھ بھی تلاش نہ کرنا، بے بسی کی انتہا ہے — ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی شہر میں پانی عطا فرمادے — اس لئے کجاوے کس لو اور یہاں سے چل دو، تمام ساتھی تیار ہو گئے — قریش کے قبیلوں کے ہم سفر ساتھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں؟ — عبدالمطلب آگے بڑھے اور اپنی سواری پر سوار ہو گئے — جب سواری انہیں لے کر اٹھی، تو اس کے پاؤں کے نیچے سے بیٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا — عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا — پھر انہوں نے

اتر کر ساتھیوں سمیت پانی پیا — اور مشکیزے بھر لئے۔
انہوں نے قریش کے قبیلوں کو بلا کر کہا: آؤ! اور دیکھو! اللہ تعالیٰ
نے ہمیں پانی عطا کر دیا ہے — تم بھی پو اور مشکیزے بھر لو —
سب نے دل کھول کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لئے — پھر بیک
زبان بولے عبدالمطلب، اللہ کی قسم! تمہارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے
— خدا کی قسم! ہم تم سے زمزم کے نسلے پر کبھی جھگڑا نہیں کریں گے
— جس ذات کریم نے اس جنگل میں تمہیں یہ پانی عطا کیا ہے، اسی نے
تمہیں زمزم عطا کیا ہے — آپ مطمئن ہو کر واپس چلیں آپ ہی
زمزم کے متولی ہوں گے — چنانچہ عبدالمطلب اور دوسرے تمام لوگ
کاہنہ سے ملاقات کئے بغیر لوٹ گئے، اور چاہ زمزم بالا تفاق ان کے سپرد کر
دیا۔

۱۔ مسجد حرام میں واقع کونئیں کے یہ نام ہیں ۱۔ زمزم ۲۔ طیبہ

۳۔ برہ - ۱۲ فرفور

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سچائی کی برکتیں

حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا، عبدالرحمن بن اشعث کے ساتھیوں کو قتل کروا رہا تھا۔۔۔۔۔ ایک قیدی اٹھ کر کہنے لگا: جناب امیر! میرا آپ پر ایک حق ہے۔۔۔۔۔ حجاج نے کہا، وہ کیا؟۔۔۔۔۔ کہنے لگا، ایک دن عبدالرحمن آپ کو گالیاں دے رہا تھا تو میں نے آپ کا دفاع کیا تھا۔۔۔۔۔ حجاج نے کہا، اس کا گواہ کون ہے؟۔۔۔۔۔ اس شخص نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ جس نے وہ گفتگو سنی تھی وہ گواہی دے۔۔۔۔۔ ایک دوسرے قیدی نے اٹھ کر کہا، جناب! یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا تھا۔۔۔۔۔ حجاج نے کہا، پہلے قیدی کو رہا کر دو۔۔۔۔۔ پھر گواہی دینے والے سے پوچھا۔۔۔۔۔ تجھے کیا رکاوٹ تھی کہ تو نے اس طرح میرا دفاع نہ کیا؟۔۔۔۔۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔۔۔۔۔ رکاوٹ یہ تھی کہ میرے دل میں تمہاری پرانی دشمنی تھی۔۔۔۔۔ حجاج نے کہا، اسے بھی رہا کر دو۔۔۔۔۔ کیونکہ اس نے پوری جرات کے ساتھ سچ کہا ہے۔

(عیون الاخبار)

سر شہزاد ایمان سے چھوٹنے والا کلمہ حق

عمر بن ابیہرہ، عبد الملک بن یزید کے دور میں واسط کے گورنر اور اچھی سیرت کے مالک تھے۔ علماء سے محبت رکھتے تھے۔ فقہاء کرام کی باتیں توجہ سے سنتے اور ان کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے دور کے تین نامور علماء کو دعوت دی جو اپنے زمانے میں علم و فضل، زہد و تقویٰ اور فقہت کے امام تھے۔

۱۔ حسن بصری ۲۔ محمد بن سیرین ۳۔ شعبی۔ یہ تینوں علمی دنیا کے ستون، تشریف لائے تو ان کا پر تپاک استقبال کیا۔ ان کی مہمانی اور ضیافت کا شاندار اہتمام کیا، اور خدمت کے لیے خدام کی ایک جماعت مقرر کر دی۔

تینوں حضرات امیر کے ہاں ایک مہینہ پوری شان و شوکت کے ساتھ رہے۔ ہر دن ان کے اعزاز و اکرام میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور ان پر انعامات کی بارش ہوتی رہی۔

ایک دن امیر کے دربان نے آکر انہیں امیر کا سلام دیا اور خبر سنائی۔ کہ آج امیر آپ سے ملاقات کریں گے، وہ آنے ہی والے ہیں۔ یہ حضرات بیٹھے امیر کا انتظار کرتے رہے۔ عمر بن ابیہرہ تن تنہا لاٹھی ٹپکتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے، ان کے ساتھ کوئی خادم نہ تھا۔ بڑے عمدہ انداز میں سلام کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ اور ان کے پاس بیٹھ کر خیریت دریافت کی۔ اور ان

سے پوچھا کہ کیا آپ کا وقت آرام و سکون کے ساتھ گزرا؟ — ان بزرگوں نے امیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، کہ آپ نے ہماری بڑی خدمت کی اور ہمارے لیے بڑا اہتمام کیا — اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بھلائی عطا فرمائے۔

عمر نے کہا، میرے دل میں ایک چیز کھٹک رہی ہے، اور میں اس کے بارے میں بہت متردد ہوں — میں اسی کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں — مجھے آپ سے بڑا خیر خواہ، علم والا اور صاحب تقویٰ نہیں ملا — آپ حضرات امت مسلمہ کے دینی راہنما اور شریعت کا پرچم بلند کرنے والے ہیں سب نے بیک زبان پوچھا، وہ کیا ہے؟

امیر نے کہا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یزید بن عبد الملک، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے — اس نے لوگوں سے عہد لے رکھا ہے کہ وہ اس کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں — اور خود عوام کو بھی عہد دے رکھا ہے — اس کی طرف سے مجھے کچھ ایسے احکام ملتے ہیں جن کے نافذ کرنے میں میری ہلاکت ہے — اگر میں اس کی اطاعت کروں تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ٹھہروں گا — آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟

حسن بھری نے ابن سیرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ امیر کے سوال کا جواب دیجئے! ابن سیرین نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور نگاہیں نیچی کر لیں — ان کے چہرے پر خوف اور ہیبت کی ایک لہر گزر گئی — ان پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔

پھر حسن بھری نے شعبی کی طرف متوجہ ہو کر کہا 'آپ امیر کے سوال کا جواب ارشاد فرمائیں! شعبی نے چند کلمات کہے 'صاف دکھائی دیتا تھا کہ ان پر حکومت کا رعب طاری ہو چکا ہے اور وہ تردد کا شکار ہیں — اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں 'صاف صاف نہیں کہہ سکے۔

عمر بن بیہوہ نے ان کی گفتگو سنی، لیکن ان کے جواب سے انہیں تشفی نہیں ہوئی۔

امیر نے حسن بھری کی طرف متوجہ ہو کر کہا 'ابو سعید! — جو کچھ آپ نے سنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ — اور آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟

حسن بھری سر جھکائے اس سوچ بچار میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں کیا کہنا چاہیے؟ — انہوں نے سر اٹھایا اور ابن بیہوہ پر بھرپور نظر ڈالی جیسے کہیں دور سے اس کی روح کو حاضر کر رہے ہوں — تاکہ اسے خالص نصیحت اور کھری کھری باتیں سنائیں — ان کی دینی ذمہ داری نے انہیں پرانگیختہ کیا کہ حق بات و اشکاف لفظوں میں کہہ دیں — انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جلال کا تصور کیا تو ہر بیت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی — انہوں نے اس شخص کی طرح گفتگو کی جس کی نگاہوں میں حق کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔

حسن بھری نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا

چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس لئے مجھ پر جواب دینا لازم ہو گیا ہے — کیونکہ دین اخلاص کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے، مسلمانوں کے

سربراہوں کے لئے 'عامۃ المسلمین کے لئے' — انہوں نے امیر کے لقب کا ذکر کیا اور نہ ہی اس کی کنیت کا، بلکہ براہ راست نام لے کر اسے مخاطب کیا۔

عمر بن بیعدہ! بے شک اللہ تعالیٰ تجھے یزید سے محفوظ رکھے گا —
یزید تجھے اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکے گا — وہ وقت دور نہیں جب آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو گا، وہ تجھے تخت حکومت سے اتار دے گا — اور محلات کی وسعت سے نکال کر تجھے تیرے گھر کے صحن میں پہنچا دے گا — پھر تجھے گھر کے صحن سے نکال کر قبر کی تنگ اور تاریک کوٹھری میں پہنچا دے گا — جہاں تیرے عمل صالح کے علاوہ وسعت کا کوئی ذریعہ نہیں ہو گا۔

ابن بیعدہ! میں تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتا ہوں —
اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو صرف اور صرف اپنے بندوں کا یا اور ومددگار بنایا ہے اور اپنے دین کا پاسبان — لہذا تم لوگ خدا داد حکومت کے بل بوتے پر بندگان خدا کی گردنوں پر سوار ہو کر، انہیں ذلیل نہ کرو —
کیونکہ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

”کسی مخلوق کی بات مان کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جاسکتی“
ابن بیعدہ! اس بات سے ڈر کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی نافرمانی ایسے قبیح فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے — اور تجھ پر قہر و غضب کی نگاہ ڈالے — اور تجھ پر رحمت کا دروازہ بند کر دے۔

ابن ہیرہ! میں نے اس امت کے دور اول کے بہت سے قدسی صفات افراد کو دیکھا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اتنا نہیں بچتے ہو گے۔ جتنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے بچتے تھے۔ تمہیں اپنے گناہوں کے بخشنے نہ جانے کا اس قدر خوف نہیں ہو گا۔ جتنا کہ انہیں اپنی نیکیوں کے مردود ہونے کا خوف تھا۔ دنیا کے مال و متاع کی جتنی اہمیت تمہاری نگاہوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے نزدیک اخروی ثواب کی اہمیت تھی۔ دنیا تم سے دور ہونا چاہتی ہے اور تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ جب کہ دنیا ان کی طرف مائل تھی اور وہ اس سے دور بھاگتے تھے۔ جس قدر تم دنیا کی طرف مائل ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ دنیا سے اعراض کرتے تھے۔

حسن بصری چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ حق کی ہیبت امیر پر چھا گئی۔ وہ حسن بصری کی گنگو سننے کے لیے ہمہ تن گوش ہو گیا۔ یوں دکھائی دینا کہ عمر بن بیہودہ غائب کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ دوسرا شخص لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر حسن بصری کی آواز بلند ہوئی۔ سرچشمہ ایمان اور آسمان اخلاص سے وارد ہونے والے مضامین کے بیان کرنے کے لئے وہ سراپا زبان بن گئے۔ اور پورے جلال کے ساتھ گویا ہوئے:

اے عمر! میں تجھے اس مقام سے ڈراتا ہوں جہاں تجھے اللہ تعالیٰ نے

اپنے قہر و غضب سے ڈرایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ
(ابراہیم ۱۲/۱۴)

”یہ اس کے لئے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے

سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے“ (القرآن، ابراہیم، ۱۳/۱۳)

اے عمر! اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یزید کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کی طرف سے آنے والی ہر معصیت سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر تو یزید کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کے سپرد کر دے گا۔

امیران ظلمات حق و صداقت کی گرفت میں آگیا۔ اس کا چہرہ فرط ندامت کی بنا پر سرخ ہو گیا۔ وہ ایمان و اخلاص سے معمور دل سے صادر ہونے والے ان کلمات کو پوری طرح سن نہ سکا۔ اس کے رخساروں پر آنسو بننے لگے، اس پر شدت گریہ طاری ہو گئی اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے واپس چلا گیا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کی ذات میں ایک ایسا انقلاب آگیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوز و فلاح کی بشارت ملنے سے روحوں پر طاری ہوا کرتا ہے۔ اس انقلاب نے حکومت کے بارے میں اس کا نقطہ نظر تبدیل کر دیا اور اسے ایسے سیدھے اور سچے راستے پر ڈال دیا جو اسے پہلے معلوم نہ تھا۔

اس پر حقیقت اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہو گئی۔ جاتے ہوئے وہ بار بار ان کلمات کو دہرا رہا تھا۔

”عمر! اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یزید کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے یزید کی طرف سے آنے والی ہر معصیت سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر تو یزید

کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ
تجھے اس کے سپرد کر دے گا“

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدًا

(ابداھیبہ ۱۲/۱۴)

”یہ اس کے لیے ہے جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے

اور میری وعید سے ڈرا“

دوسرے دن امیر نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا — حسن بصری کو
چار ہزار درہم دیئے، ابن سیرین اور شعبی کو دو دو ہزار — شعبی
وہاں سے نکل کر سیدھے مسجد میں گئے — لوگ ان کے گرد جمع ہو
گئے، انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا — تم میں سے جو شخص مخلوق کو
چھوڑ کر خالق کی رضا حاصل کر سکتا ہے، ضرور کرے — ابن بیبرہ
نے مجھے، حسن بصری اور شعبی کو بلایا اور ہم سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے
بارے میں سوال کیا — میں نے اور ابن سیرین نے ابن بیبرہ کا لحاظ
کیا — ہم اسے بطور نصیحت وہ کلمہ حق نہ کہہ سکے جو اللہ تعالیٰ نے
ہم پر واجب کیا تھا — اللہ تعالیٰ نے ہمیں دور کر دیا اور ہمارے
انعام میں کمی کر دی — حسن بصری نے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کیا
— تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت و اعانت سے نوازا، مالا مال کیا اور
ہماری نسبت انہیں مال بھی زیادہ دیا، بیت بھی زیادہ عطا کی۔

دور اول میں ایسے لوگ امت مسلمہ کے سربراہ ہوتے تھے
— وہ علماء سے نصیحت کی درخواست کرتے تھے اور علماء انہیں بے
دھڑک ہو کر نصیحت کرتے تھے — حکمران ان کی نصیحتوں پر عمل

کرتے تھے، جس کا فائدہ انہیں بھی ملتا تھا اور امت مسلمہ کو بھی —
کیونکہ مخلص علماء، انبیاء و مرسلین کے وارث ہیں — ان سے وعدہ
لیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق بیان کریں — چاہے جس کے
لئے کتنی ہی مشکلات اور دشواریاں برداشت کرنا پڑیں — انہیں
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے، حق کے بیان کرنے — اور اس کی
حمایت کرنے سے، کسی ملامت گر کی ملامت نہیں روک سکتی — ان
کے دل، دنیا اور اس کی چمک دمک، رزق اور اس کے اسباب سے بے نیاز
ہو چکے ہیں — ان کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت میں
گزرتے ہیں — اور وہ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں — نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے۔

قَوْلَ الَّذِي نَفْسٌ مَّحْتَبِيَةٌ بِيَدِهِ

إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

لَا يَمْنَعُ رِزْقًا وَلَا يُقَدِّمُ رَجُلًا

قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان
ہے! نیکی کا حکم دینا — اور برائی سے منع کرنا — نہ
تو رزق کو روکتا ہے اور نہ ہی موت پہلے لاتا ہے۔

حسن بھری، ابو سعید، امام: سنت و ہدایت کے امام تھے، جامع
عالم، ثقہ، لائق اعتماد، صاحب عبادت و ریاضت، فصیح —
اپنے زمانے کے عظیم مجاہد اور بہادر — امراء اور علما کو

پوری قوت کے ساتھ نصیحت کرنے اور ہدایت دینے والے تھے
— اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی
پردہ نہیں کرتے تھے — ۱۱۰ھ میں وصال ہوا۔

○ محمد بن سیرین انصاری، ابوبکر بھری: اپنے وقت کے امام، ثقہ،
معتد علیہ، امام فقیہ اور وسیع علم والے تھے — ہر وقت
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے — بڑے متقی تھے،
ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے — خوابوں
کی تعبیر بیان کرنے میں مشہور تھے — ۱۱۰ھ میں وصال ہوا۔

○ شعبی، عامر بن شراحیل حمیری شعبی، ابو عمرو کوفی، جلیل القدر
امام تھے، پانچ سو صحابہ کرام کی زیارت کی — کہا جاتا تھا
کہ شعبی سے بڑا فقیہ کوئی نہیں — حافظہ بہت قوی تھا
— فرماتے تھے کہ میں نے جو کچھ کانڈ پر لکھا وہ سب مجھے
یاد ہے — ۱۰۳ھ میں وصال ہوا، رحمہم اللہ تعالیٰ علیم
رحمۃ واسعہ

۱- عمر بن بیبرہ، یزید بن عبدالملک کے دور میں عراق کے گورنر تھے —
۱۰۳ھ میں عراق کی گورنری سے معزول کر دیئے گئے — شہرہ آفاق بہادر
تھے — انہوں نے ترکوں کو زچ کر دیا تھا — چنانچہ وہ ان سے بہت
ڈرتے تھے — ۱۲ فرور

۲- یزید بن عبدالملک بن مروان بن حکم، بنو امیہ کے خلفاء میں سے تھے

— حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات کے دن، اپنے بھائی سلیمان کی وصیت کے مطابق، خلیفہ بنائے گئے۔ چالیس دن عمر بن عبد العزیز کی روضہ پر چلے۔ پھر ان کے پاس دمشق کے کچھ سرکردہ لوگوں نے حاضر ہو کر حلفیہ بیان دیا کہ خلفاء حساب و عقاب سے آزاد ہوتے ہیں۔ شام کے بعض جاہلوں کا یہی عقیدہ تھا اور اسی عقیدے کی بنا پر یزید کو فریب میں مبتلا کیا۔ جولان کے علاقے میں فوت ہوئے اور انہیں دمشق لے جا کر ۲۵ شعبان ۱۰۵ھ کو باب جابیہ اور باب الصغیر کے درمیان دفن کیا گیا۔ ان کی عمر انتیس سال۔ اور عرصہ خلافت چار سال اور ایک ماہ تھا۔ ۱۲ فرور

۳۔ یا قوت نے معجم البلدان میں بیان کیا ہے کہ واسط کا نام واسط رکھنے کی دو وجہیں ہیں۔ ۱۔ وہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ ۲۔ اس کا فاصلہ کوفہ اور بصرہ ہر ایک سے ایک سو پچاس میل ہے۔ ۸۲ھ میں اس کی تعمیر کا آغاز حجاج نے کیا۔ اور ۵۸۶ھ میں اسے مکمل کیا۔ اس میں اس نے اپنا محل، مسجد اور فصیل تعمیر کی۔ اس کی تعمیر پر چالیس کروڑ تین لاکھ درہم خرچ کئے۔ یہ عظیم شہر ہے، جس کے محلے اور دیہات کثیر تعداد میں ہیں۔ باغات اور کھجوروں کے بے شمار درخت ہیں۔ ہر چیز نہایت سستی ہے۔ ۱۲ معجم البلدان

۴۔ اس حدیث کا حوالہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ۱۲ فرور

ایمان اور قرآن کا فیضان

طلباء، مدارس اور دانشکدوں سے فارغ ہو کر دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں — اور زمانہ انہیں علمی اور عملی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا وسیع میدان فراہم کرتا ہے — اس وقت علمی مراکز اور دانشکچوں کے اثرات اور مقاصد، ان فضلاء کی زبانوں سے نکل کر منظر عام پر آتے ہیں — تب انہیں آلام و مصائب کی بھٹیوں اور رخصت و عزیمت کی شاہراہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔

یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسانی نفوس کے جوہر کھلتے ہیں — روحوں کی حقیقتیں اور صلاحیتیں بے نقاب ہوتی ہیں — اور جن مدارس سے پڑھ کر وہ نکلے ہیں، ان کے مقاصد ان سند یافتہ ارباب علم کی زبانوں اور مجاہدانہ کارناموں کے ذریعے، دنیا کے سامنے آتے ہیں — خصوصاً ان اصحاب علم و فکر کے ذریعے جو اپنے خالق و مالک پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہوں۔

انسان کے دل میں ایمان کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں دل کی ہے — جب ایمان، دل میں جلوہ گر ہو جاتا ہے تو وہ ایسی طاقت بن جاتا ہے کہ بلند و بالا پہاڑ اس کا راستہ نہیں روک سکتے — اور صف شکن دلاور اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتے — تاریخ کے صفحات اس کے ایمان کے اثرات سے جگمگا رہے ہیں۔

یہ جلیل القدر انصاری صحابی حضرت خبیب بن عدی نے ہیں — جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کے ہمراہ عرب کے کچھ قبائل کے پاس بھیجا — تاکہ انہیں دین متین کا پیغام پہنچائیں — اسلامی تعلیمات سکھائیں اور جہالت و معصیت اور کفر و فسق کے اندھیروں سے نجات دلائیں — ان ظالموں نے

غداری کی، اور امن و ہدایت کے علمبرداروں کو شہید کر دیا۔۔۔۔۔ اس وقت خبیب بن عدی اور زید بن اللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گرفتار کر کے معمولی قیمت پر مکہ مکرمہ میں بیچ دیا گیا۔۔۔۔۔ حضرت خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔۔۔۔۔ اس کے بیٹوں نے اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کرنے اور عار کی زلت کو دھونے کے لیے خبیب کو خرید لیا۔۔۔۔۔ اور قتل کرنے تک ماویہ بنت حجاج کے گھر قید کر دیا۔

ماویہ کا بیان ہے کہ خبیب میرے گھر میں قیدی بنا کر رکھے گئے۔۔۔۔۔ تو انہوں نے تمام عرصے میں اس جانور کا گوشت کھانے سے انکار کیا، جسے اللہ تعالیٰ کا نام لئے بغیر ذبح کیا گیا ہو۔۔۔۔۔ وہ ہمارے گھر سے ملنے والا صرف دودھ نوش کر لیتے تھے۔۔۔۔۔ میں نے انہیں جب بھی دیکھا، روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔۔۔۔۔ وہ روحانی فرشتے تھے، جن کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹی تھیں۔۔۔۔۔ ان کے ملکوتی کردار نے مجھے مرعوب کر دیا، اور ان کے ایمان نے میرے دل میں گہرا اثر چھوڑا۔۔۔۔۔ ایک دن میں نے چھپ کر دروازے کے سوراخ میں سے انہیں دیکھا۔۔۔۔۔ تو حیران رہ گئی۔۔۔۔۔ ان کے ہاتھ میں انسانی سر کے برابر ترو تازہ انگوروں کا گچھا تھا۔۔۔۔۔ اور وہ توڑ توڑ کر انگور کھا رہے تھے، حالانکہ میرے علم کے مطابق اس وقت روئے زمین پر انگور موجود نہ تھے۔۔۔۔۔ میں نے ان سے پوچھا، خبیب! یہ انگور کہاں سے ملے ہیں؟۔۔۔۔۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں۔۔۔۔۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔۔۔۔۔ وہ جب قرآن پاک پڑھتے تو عورتیں سننے کے لیے اکٹھی ہو جاتیں۔۔۔۔۔ اور اتنی متاثر ہوتیں کہ خوف الہی کی بنا پر زار و قطار رونے لگتیں۔

دین و ایمان کے دشمنوں نے جب انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور

وقت مقرر کر دیا تو خبیب نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی —
اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ان کے دل میں ذرہ برابر طال پیدا نہ ہو۔
اب اہل مکہ نے ان کے ایمان کے خریدنے کا فیصلہ کیا —
انہیں نے پیشکش کی کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور منہ مانگا انعام بھی
دیں گے — شرط صرف اتنی ہے کہ تم ایک بار محمد عربی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دو — خبیب نے بڑی سختی سے ان
کی پیشکش ٹھکرا دی — اور کہا 'میرے نزدیک موت اتنی معمولی چیز
ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے — بنو الحارث جب انہیں شہید کرنے
کے لئے گئے ' تو انہوں نے کہا ' مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں دو رکعت
نماز ادا کر لوں — چنانچہ انہوں نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ
دو رکعتیں پڑھیں ' خون کے پائے بیٹھے دیکھتے رہے — نماز سے
فارغ ہو کر انہیں خطاب کرتے ہوئے ' کہنے لگے — اگر یہ خیال نہ
ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں ' تو نماز لمبی پڑھتا
— مشرکین نے انہیں ایک ستون پر سولی چڑھا دیا ' جب انہیں
سکراتے ہوئے قبلہ شریف کی طرف رخ کیا — خوف و ہراس کا نام
و نشان تک نہ تھا ' یوں دکھائی دیتا کہ وہ دوستوں کی ملاقات سے مسرور ہیں
— انہوں نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی طرف نگاہیں اٹھائیں تو
بیت اللہ شریف ' مدینہ منورہ ' نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور
صحابہ کرام سب ان کے سر کی آنکھوں کے سامنے تھے — اردگرد کا
پورا ماحول اور دشمنوں کا اجتماع سب کچھ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا
تھا

خبیب نے کہا

یا اللہ! تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر اور کعبہ مبارکہ کی طرف کر دیا ہے
— جسے تو نے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے

یا اللہ! اپنے رسول کو میرا سلام پہنچا دے — اور جو کچھ یہ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے اس کی اطلاع اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے دے۔

اے خالق کائنات! مجھے اپنے آس پاس صرف دشمنوں کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں — میرے مالک! انہیں گن لے اور انہیں قتل کر کے پارہ پارہ کر دے، اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے۔

مظلوم خبیب کی دعا سن کر ابو سفیان اتنے خوفزدہ ہوئے کہ زمین پر گر گئے — وہ جانتے تھے کہ مظلوم کی دعا خالی نہیں جاتی — حالانکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔

پھر ظالموں نے انہیں قتل کر دیا — جب بھی ان پر نیزے یا تلوار کا وار کیا جاتا، تو وہ جھوم اٹھتے — لمبی لے میں پڑھتے لا الہ الا اللہ وہ بڑی بہادری، ثابت قدمی اور ایمان و صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے — ان کی غیرت ایمانی اور استقامت میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی — بعینہ وہی وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں — آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جب افاقہ ہوا تو آپ کی آنکھوں میں سیل اشک رواں تھا — اور آپ کہہ رہے تھے، خبیب!

”تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں“

صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا، قریش نے انہیں شہید کر دیا ہے — سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود اور زبیر بن عوام کو حضرت خبیب کی نعش لانے کے لیے بھیجا — حضرت زبیر کا بیان ہے کہ میں وہاں پہنچا تو چالیس افراد نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے — میں خبیب کی نعش کو کھول کر تھوڑا سا پیچھے ہٹا، تو وہ نیچے گر گئی — بالکل تروتازہ، اس میں کچھ بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی تھی — میں نے اسے گھوڑے پر رکھا اور چل دیا، اتنے

میں مشرکین کو بھی پتا چل گیا ————— جب میں نے دیکھا کہ وہ بالکل قریب آچکے ہیں، تو میں نے نعش نیچے گاڑ دی، تاکہ تیزی سے دوڑ سکوں اور یقینی موت سے بچ جاؤں ————— مشیت ایزدی یہ تھی کہ شہید مجاہدوں کے جسموں کو بے آبروئی سے محفوظ رکھا جائے ————— چنانچہ زمین نے ان کی نعش کو اس طرح لگلا کہ نام و نشان باقی نہ رہا ————— اس لیے ان کا نام بلع الارض (وہ جسے زمین نگل گئی) قرار دیا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت خبیب اور دیگر صحابہ کرام کا ایمان نہ تو انہیں ورثے میں ملا تھا، نہ ہی معاشرے کا عطیہ تھا، اور نہ ہی ہاں میں ہاں ملانے کا نتیجہ تھا ————— بلکہ ایک راسخ عقیدہ تھا جس کی جڑیں ان کے دلوں میں پوس تھیں، اور اسے قرآن اور اخلاق کے سرچشمہ صافی سے سیراب کیا گیا تھا ————— اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایمان کے پودے نے دوگنا پھل دیا اور اس میں کچھ کمی نہ ہوئی ————— مصائب و حوادث کی آندھیاں اسے بدل نہ سکیں ————— بلکہ اس کی قوت اور پختگی میں روز افزوں ترقی ہی ہوتی رہی، جس قوم کے افراد کے دلوں میں ایمان رچ بس نہیں جاتا ہے ————— وہ نہ صرف کمزور ہوتی ہے، بلکہ اپنی معنوی زندگی اور ترقی کھو بیٹھتی ہے ————— ایسی قوم علم اور ثقافت کی روح سے فائدہ نہیں اٹھاتی، اس کے لیے علم و بال اور بدبختی کا سبب بن جاتا ہے۔

جس قوم کی گھٹی میں ایمان باللہ شامل ہو، اس کے لیے یہ معاملہ کچھ عجیب نہیں ہوتا ————— وہ اس طرح زندگی گزارتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں، اور اس سے انس حاصل کر رہے ہوں ————— جو کچھ ان کے رب کی طرف سے آتا تھا اس پر راضی رہتے تھے، اور اسے بیٹھا اور لذیذ جانتے تھے۔

ان لوگوں کے دل رنج و راحت میں مستحکم رہے ————— اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا، اس کے سامنے بزدل اور کمزور نہ ہوئے ————— اور نہ ہی زمانے کے حملوں اور حوادث کے آگے جھکے

— وہ ہمیشہ سرچشمہ ایمان سے ایسا نور طلب کرتے رہے، جو تاریک زندگی کے انجانے راستوں کو روشن کر دے اور سرکش دلوں سے غفلت کے پردے چاک کر دے — وہ خود تو زمین پر چلتے تھے لیکن ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے سراپا اشتیاق اور سرور رہتی تھیں۔

۱۔ یہ خبیب بن عدی بن مالک بن عامر انصاری اسی تھے — غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں جام شہادت نوش کیا — حدیث صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے — کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دس افراد کو حالات کا جائزہ لینے کے بھیجا — اور حضرت عاصم بن ثابت افلح کو ان کا امیر مقرر کیا — امام بخاری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خبیب کو ابو سروع نے شہید کیا — اسی طرح اصابہ میں ہے۔ ۱۲ فرور

۲۔ اصابہ میں ہے کہ حضرت زید بن دثنہ جلیل القدر صحابی تھے — بدر اور احد میں شریک ہوئے — غزوہ بئر معوذ میں مشرکین نے انہیں گرفتار کر لیا — اور قریش نے انہیں مقام تھیم میں شہید کر دیا — وہ فقہاء صحابہ میں سے تھے — رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ۱۲ فرور

۳۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔

عمرو بن العاص کی ذکاوت

حضرت عمرو بن العاص ؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیساریں فتح کر کے آگے بڑھے تو غزہ کے پاس پڑاؤ ڈالا — غزہ کے رئیس نے پیغام بھیجا کہ اپنے کسی ساتھی کو گفتگو کے لیے میرے پاس بھیجئے — حضرت عمرو نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کام کے لیے میرے سوا کوئی موزوں نہیں ہے

چنانچہ خود روانہ ہوئے اور رئیس کے پاس پہنچ کر اس سے گفتگو کی — رئیس ان کی گفتگو سن کر دنگ رہ گیا، اس نے کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی — کہنے لگا، یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھیوں میں آپ جیسا عقل مند کوئی دوسرا شخص بھی ہے — حضرت عمرو نے کہا، یہ نہ پوچھئے! میں ایک معمولی شخص ہوں، اسی لیے میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے — انہوں نے مجھے اس مشکل میں ڈال دیا ہے، حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں؟ — رئیس نے حکم دیا کہ انہیں تحفے تحائف اور پوشاک دو — اور اپنے دربان کو پیغام بھیجا کہ جب یہ تمہارے پاس سے گزریں تو سب کچھ چھین کر اس کا سر قلم کر دو۔

جب رئیس کے پاس سے نکلے تو غسان کا ایک عیسائی آپ کے پاس سے گزرا — اس نے آپ کو پہچان لیا اور کہنے لگا، آپ بڑی عمدگی سے اندر آئے ہیں — نکلنے وقت بھی خوش اسلوبی سے کام لیں — حضرت عمرو بن العاص اس کا مطلب سمجھ گئے اور وہیں سے واپس پلٹ گئے — رئیس نے کہا، آپ دوبارہ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ — حضرت عمرو نے کہا، میں نے آپ کے دیئے ہوئے عطیات دیکھے ہیں، یہ میرے چچا زاد بھائیوں کے لیے کافی نہیں ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، تاکہ میں اپنے دس بھائیوں کو ساتھ لے آؤں —

بہتر ہو گا کہ آپ کا عطیہ صرف ایک شخص کو ملنے کی بجائے دس افراد کو مل جائے۔۔۔۔۔ رئیس نے کہا، آپ کا خیال صحیح ہے، جلد انہیں بھی لے آؤ، دربان کو پیغام بھیج دیا کہ انہیں گزر جانے دو۔۔۔۔۔ حضرت عمرو خریٹ نکل آئے، البتہ از راہ احتیاط ماحول پر کڑی نگاہ رکھی، جب انہیں اطمینان ہو گیا تو کہنے لگے۔۔۔۔۔ آئندہ کبھی اپنے آپ کو ایسے خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔۔۔۔۔ جب وہ علاقہ صلح سے فتح ہو گیا تو وہی رئیس حضرت عمرو کے پاس ملاقات کے لیے آیا۔۔۔۔۔ انہیں دیکھتے ہی چونک گیا اور کہنے لگا، آپ ہی وہ نمائندہ تھے۔۔۔۔۔ حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا، ہاں! تم تے تو دھوکہ دینے کی پوری کوشش کی تھی۔

اللہ تعالیٰ عمرو بن العاص پر رحمتیں نازل فرمائے۔۔۔۔۔ وہ عرب کے مشہور ترین ذریعہ اور اپنے دور کے نلیفہ عصر تھے۔۔۔۔۔ وہ اپنی حیرت انگیز ذکاوت و فطانت اور عالی دماغی کی بنا پر مکار دشمن کے مکر و فریب سے محفوظ رہے اور صحیح سالم اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے۔

مومن کو اسی طرح محتاط اور بیدار مغز ہونا چاہیے تاکہ دشمن سے محفوظ رہے۔۔۔۔۔ حضرت عمر بن خطاب نے کتنی شاندار بات کہی تھی میں نہ تو کسی کو دھوکہ دیتا ہوں اور نہ ہی کسی فریب کار کے فریب کا شکار ہوتا ہوں۔

۱ حضرت عمرو بن العاص بن ہاشم بن وائل قریشی سہمی تھے، ان کی کنیت ابو عبد اللہ اور ابو محمد تھی۔۔۔۔۔ فتح مکہ سے پہلے، ماہ صفر ۸ھ میں اسلام لائے۔۔۔۔۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سات سال پہلے اسلام لائے۔۔۔۔۔ اور ۴۳ھ میں راہی دار آخرت ہوئے، نوے سال عمر پائی۔۔۔۔۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصر کا گورنر بنایا۔۔۔۔۔ حضرت عمرو بن العاص عرب کے ذہین ترین فرد تھے۔ ۱۲ فروری

شوکتِ اسلام، مسلمانوں کی آبرو

یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر اور مشرکین باطل پر نہیں؟ —
فرمایا، ضرور ہیں — پھر پوچھا، یا رسول اللہ! کیا ہمارے مقتول جنت
میں اور ان کے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ — فرمایا، ہاں! ضرور
جائیں گے، حضرت عمر فاروق نے کہا — جب ہم حق پر ہیں تو چھپ
چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ — یا رسول اللہ! آپ ہمیں لے کر
حرم کعبہ میں چلیں — اللہ کی قسم! جس جس مجلس میں، میں نے
لات و عزیٰ نے کی عزت بڑھائی ہے، وہاں دین اسلام کا پرچم بلند کروں گا۔
یہ کلمات، صاحب فتوحات کثیرہ اور اسلام کے نور، عمر بن الخطاب
قریشی عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے — کون عمر؟ — وہ
جن کا اسلام لانا فتح تھا — جن کی ہجرت فتح اور خلافت بھی فتح تھی
— ان کلمات سے دوسرے صحابہ کرام کی ہمت بندھ گئی اور حوصلے
بلند ہو گئے — نور ہدایت کے سانچوں میں ڈھلے ہوئے صحابہ کرام
ایک قطار میں دار ارقم سے نکلے — اس قطار کے ایک کنارے پر عمر
فاروق تھے اور دوسرے کنارے پر امیر حمزہ — دوپہر کے وقت یہ
حضرات باآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے اور نعرہ ہائے تکبیر لگا رہے
تھے — قریش کے بڑے بڑے سردار دیکھنے آئے کہ کیا ماجرا ہے؟
— انہوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب اسلام لا کر رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہو چکے ہیں — وہ غیظ و
غضب اور حسرت و یاس کی بنا پر اپنی انگلیاں چبا کر رہ گئے — اور
کہنے لگے، آج یہ لوگ ہماری آدمی طاقت لے گئے ہیں — یعنی عمر
فاروق کا مقام اور مرتبہ قریش میں اتنا بلند تھا کہ صرف ان کا ایمان لانا
آدھے قریش کے ایمان لانے کے برابر تھا۔
ایمان خالص کی یہی شان ہے — جب اس کا نور دل میں

جنگلاتا ہے تو کامیابی کی راہیں ہموار کر دیتا ہے — اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے پورے عزم و استقلال کے ساتھ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے لگتا ہے۔

عمر فاروق کے تازہ ایمان نے ذلت اور کمزوری کو قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیا — ان کا ایمان بزدلی اور کمزوری کے بغیر اسلام کے ساتھ ساتھ عزت کا طلبگار تھا — ان کے ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو 'عقیدے کی تمام تر سچائی اور خالص ایمان کی بنیاد پر' اسلام کی بنیادی تعلیمات 'ڈٹکے کی چوٹ پر بیان کرنے کی قوت عطا کر دی۔

صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں چھپے رہیں اور ہر قسم کی اذیت اور تکلیف سے محفوظ رہیں — رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان ان کا مقام بہت بلند تھا — انہوں نے قریش کو اپنے اسلام لانے کی اطلاع دینے کا فیصلہ کر لیا

انہوں نے دریافت کیا کہ قریش کا وہ کون سا فرد ہے جس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی؟ — انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن عمر جمعی ایسا ہی شخص ہے — وہ سیدھے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے — جمیل تم نے سنا کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گیا ہوں — وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنی چادر سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، حضرت عمر فاروق بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے — جمیل مسجد حرام کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا — قریش، بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے — جمیل نے سنسنی خیز انداز میں اعلان کیا — گروہ قریش! سنتے ہو، عمر بن خطاب اپنا آبائی دین چھوڑ کر نئے دین میں داخل ہو گیا ہے — حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں

اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا، نہیں نہیں، میں تو اسلام لایا ہوں
— اور میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں
— اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد
مکرم اور رسول ہیں — پھر کیا تھا؟ — سب مشرکین عمر
فاروق پر چڑھ دوڑے — عمر فاروق ان سب کے سامنے ڈٹ گئے،
اور لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے — اس کے باوجود مشرکین
ان کے گرد گھیرا ڈال کر ان پر تشدد کرتے رہے — حضرت عمر
فاروق برابر اعلان کر رہے تھے، جو کر سکتے ہو کر لو — خدا کی قسم!
اگر ہماری تعداد تین سو تک پہنچ گئی تو دو ہی صورتیں ہوں گی، مکہ مکرمہ میں تم
رہو گے یا ہم — بالآخر وہ مایوس ہو کر دکھ اور افسوس کا اظہار
کرتے ہوئے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔

جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر
کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو سب نے خفیہ سفر کیا — حضرت عمر
فاروق وہ واحد شخص تھے، جنہوں نے تلوار اپنے گلے میں حماکل کی
— کمان کندھے پر لٹکائی اور قریش کی مجلس کے پاس جا کر چیلنج کے
طور پر اعلان کیا:

”گروہ قریش! جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ماں

اس کا ماتم کرے، یا اس کی اولاد یتیم ہو جائے، وہ

میرے پیچھے آ جائے — کیونکہ میں یشرب بن

(مدینہ) جا رہا ہوں — خدا کی قسم! اگر محمد مصطفیٰ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو ہجرت کا حکم نہ دیتے

تو میں کبھی اپنے اس پیارے شہر کو نہ چھوڑتا“

قریش مکہ نے یہ اعلان سنا تو ان پر سختہ طاری ہو گیا —

فاروق اعظم کے رعب اور دبدبے کی بنا پر کسی کو ان کے تعاقب کی جرأت

نہ ہو سکی — چنانچہ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے وہ بہترین

مہاجرین میں سے تھے۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔۔۔۔۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے تو مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے۔۔۔۔۔ اور ان کے لیے عظیم خدمات انجام دیں۔۔۔۔۔ انہوں نے قصر عدل و انصاف کی شاندار تعمیر کی۔۔۔۔۔ وہ صبح کی نماز کے وقت نمازیوں کی صفیں درست کر رہے تھے کہ اچانک ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔۔۔۔۔ اس طرح اسلام اور مسلمانوں کے سرمایہ افتخار، جام شہادت نوش کر کے، خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔۔۔۔۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۔ لات طائف میں قبیلہ ثقیف کا بت تھا۔۔۔۔۔ اور عزی قریش اور بنی

کنانہ کا بت تھا۔ ۱۲ فرفور

۲۔ ہجرت مدینہ سے پہلے شہر مدینہ کو بئر کا جانا تھا۔۔۔۔۔ بئر کا

معنی جائے مرض۔۔۔۔۔ ہجرت کے بعد بئر کا ممنوع و مکروہ ہو گیا۔

سلاطین اسلام کی عظمت و ہیبت

گزشتہ زمانوں میں دشمنوں کے دلوں پر شاہان اسلام کی زبردست دھاک بیٹھی ہوئی تھی — غیر مسلم ان کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے بھجوا یا کرتے تھے مشہور مؤرخ ابو الفداء اپنی تاریخ میں ۴۴۱ھ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں — شاہ روم نے سلطان طغرل بک ۱ کو اتنا بڑا تحفہ بھیجا جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا — اور ان سے درخواست کی کہ ہم سے معاہدہ کر کے ہمیں امت مسلمہ کے جھنڈے کے سائے کے نیچے پناہ دیں — سلطان طغرل بک نے اپنی شرائط پر اس کے ساتھ معاہدہ کیا۔

ایک شرط یہ تھی کہ شاہ روم قسطنطینیہ میں ایک مسجد تعمیر کروائے جس میں جمعہ اور پانچوں نمازیں باجماعت ادا کی جائیں — شاہ روم نے سلطان طغرل بک کی تمام شرطیں تسلیم کر لیں — اور قسطنطینیہ میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی جس میں جمعہ اور پانچوں نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔

ایک عرصہ بعد سلطان طغرل بک نے سید ناصر الدین بن اسماعیل کو روم کی ملکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا — اس وقت روم پر ایک عورت حکمران تھی — سفیر ملکہ کے پاس ٹھہرے اور اس سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ جامع مسجد میں پانچوں نمازیں اور نماز جمعہ ادا کی جائیں — انہوں نے دیکھا کہ مسجد شاندار طریقے سے آباد ہے — اور وہاں کے لوگ اس میں باقاعدہ پانچوں نمازیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں — سفیر اسلام نے وہاں خطبہ دیا، نماز جمعہ پڑھائی اور سلطان المسلمین کے لیے دعا کی — واپس آکر مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی

کہ اسلام کا دبدبہ دشمنوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے — اور ان کے دارالحکومت میں اسلامی شعائر قائم کئے جا رہے ہیں۔

دشمنوں کے دلوں میں سلاطین اسلام اور مسلم حکمرانوں کی ہیبت اس قدر چھائی ہوئی تھی — کہ دشمنان اسلام ان کی شرائط تسلیم کرتے تھے اور ان کے سامنے سر اطاعت خم کرتے تھے — زندگی کے مالک کی قسم! دشمنوں کو خوفزدہ کرنے والی یہ عظیم ہیبت صرف اور صرف خالص ایمان کی قوت، باہمی اتحاد، تعاون اور مضبوط فیصلوں کا نتیجہ تھی۔

ان کے دلوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا — اس لیے ان کی ہیبت چھا گئی اور ان کا حکم چلتا تھا — یہی وجہ تھی کہ وہ محکوم بن کر نہیں، حاکم بن کر رہے — انہوں نے شاہانہ زندگی بسر کی، ماتحت بن کر نہیں رہے — انہوں نے حکمرانوں کے تحت الٹ دیئے اور قوموں پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی — اقوام کی گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں اور وہ ان کے مالک بنے۔

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

۱ سلطان طنزل بک، رکن الدین، ابو طالب محمد بن میکانیل — پہلے سلجوقی بادشاہ تھے — طوس، رے، نیشاپور، بلخ، غزنی، بغداد اور عراق ان کے زیر نگیں تھے — وہ بڑے نرم دل اور سخی تھے — بروقت پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتے — پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، صدقہ و خیرات بکثرت بانٹتے اور مسجدوں کی تعمیر میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے — وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے لیے گھر بناؤں اور اس کے پہلو میں مسجد نہ بناؤں — ۵۴۵۵ میں رے میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں مرد میں لے جا کر دفن کیا گیا — ستر سال عمر پائی۔ ۱۲ فروری

۲ آج جب کہ خدا و رسول کے باقی نظام، کیونزم کا روس میں جنازہ نکل چکا ہے
— اور امریکہ واحد عالمی طاقت بن کر دندنا رہا ہے — اور اسے پوری
دنیا میں صرف اسلام ہی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے — یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں
کی قوت کو ختم کر کے ان کی دولت پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہے — وقت کی اہم
ترین ضرورت یہ ہے کہ مسلمان متحد ہو کر اسلامی ورلڈ آرڈر کا اعلان کریں —
عالم اسلام کے پاس جذبہ جماد، دولت، تیل، افرادی قوت اور فنی صلاحیت کی فراوانی ہے
— کاش

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تاجہ خاک کا شہر

۱۳۔ قادری

<http://t.me/Tehqiqat>

نضر بن شمل نامو عالم

فن حدیث، نحو، لغت اور شعر و ادب کے یگانے زمانہ عالم نضر بن شمل مروت میں پیدا ہوئے اور بصرہ میں پلے پڑھے — طویل عرصہ گاؤں میں مقیم رہے — عرب کے فصحاء و بلغاء اور محدثین نے ان سے خوش چینی کی — بصرہ میں وسائل زندگی کی اس قدر قلت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے بصرہ چھوڑ کر خراسان کوچ کر جانے کا فیصلہ کر لیا — انہیں رخصت کرنے کے لیے بصرہ کے تین ہزار نحو اور لغت کے ماہرین، ادباء، فقہاء اور محدثین کا جم غفیر ساتھ ہو لیا — مرد کے مقام پر انہیں رخصت کرتے ہوئے نضر بن شمل نے افسوس بھرے لہجے میں کہا

بصرہ والو! اللہ تعالیٰ کی قسم! تمہاری جدائی میرے لیے بت

ہی تکلیف دہ ہے — اگر مجھے ہر روز تمہارے پاس سے تھوڑا

سالویا ہی مل جاتا تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔

ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو ان کی اتنی معمولی ضرورت

پوری کر دیتا — نضر بن شمل، مرو پہنچے تو وہاں انہیں بے اندازہ

دولت نصیب ہوئی۔

نضر بن شمل رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا — کہ میں امیر

المؤمنین مامون کے پاس اس حال میں پہنچا کہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے

— مامون نے کہا، فضر! تم ایسے کپڑے پہن کر امیر المؤمنین کے پاس آگئے ہو؟ — میں نے کہا، مرو کی گرمی بڑی سخت ہے، اور وہ ایسے ہی کپڑوں سے دور کی جا سکتی ہے — مامون نے کہا، نہیں! بلکہ تم لا پرواہ قسم کے آدمی ہو — پھر گفتگو شروع ہوئی، تو مامون نے عورتوں کا ذکر چھیڑ دیا اور کہنے لگا — مجھے ہشیم بن بشیر نے حدیث بیان کی — انہوں نے مجالد سے — انہوں نے امام شعبی سے — اور انہوں نے ابن عباسؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جب کوئی شخص کسی عورت سے ان کے دین اور جمال کی بنا پر

نکاح کرے **كَانَ فِيهِ سِدَادٌ مِّنْ عَوَزٍ**

تو یہ نکاح اس کی محتاجی کو دور کرنے کا ذریعہ ہو گا — اور

سُدَاد کے سین پر زیر پڑھی“

میں نے کہا، امیر المؤمنین! کیا انہوں نے یہ حدیث آپ کو درست بیان کی ہے؟ — مجھے تو یہ حدیث عوف بن ابی جمیلہ اعرابی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی — کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

”جب کوئی مرد کسی عورت سے اس کے دین اور حسن و جمال

کی بنا پر نکاح کرے **كَانَ فِيهِ سِدَادٌ مِّنْ عَوَزٍ**

تو یہ عقد اس کی محتاجی کو دور کرنے کا وسیلہ بنے گا —

میں نے سِدَاد کے سین کے نیچے زیر پڑھی“

مامون تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا، یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا —

اور کہنے لگا، نضر! تمہارے نزدیک سداد کی سین پر زبر پڑھنا غلط ہے؟
_____ میں نے کہا، امیر المؤمنین! واقعی اس کی جگہ زبر غلط ہی ہے
_____ کہنے لگا، کیا تم میری غلطی نکال رہے ہو؟ _____ میں نے کہا،
غلطی دراصل ہشیم کی ہے، وہ بڑا غلط کار تھا _____ امیر المؤمنین نے تو
اس کے تلفظ کی پیروی کی ہے _____ کہنے لگا، ان کے درمیان کیا فرق
ہے؟ _____ میں نے کہا، سداد کی سین پر زبر ہو تو اس کا معنی دین اور
طریقہ کار میں میانہ روی ہے _____ اور اگر سین کے نیچے زبر ہو تو
اس کا معنی ہے سامان ضرورت _____ اور ہر وہ چیز جو بوقت حاجت کام
آئے۔

مشہور شاعر عربی نے کہا ہے

أَصَاعُونِي دَائِي فَتِي أَصَاعُوا

لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ وَسِدَادٍ ثَغِيرٍ

○ میری قوم نے مجھے ضائع کر دیا، اور بہت بڑے جوان کو ضائع کر دیا
○ جو جنگ کے دن اور سرحد کی حفاظت کے وقت کام آتا تھا۔

مامون دیر تک سر جھکائے رہا _____ پھر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ اس
شخص کو ذلیل کرے جو زبان و ادب میں ماہر نہیں ہے _____ پھر ان
سے عربوں کے بہت سے اشعار کے بارے میں پوچھا _____ نضر نے ہر
سوال کا جواب عرب کی فصیح اور عمدہ ترین لغت کے مطابق دیا _____
مامون ان کے علم و ادب، قوت استحضار اور ذکاوت کے کمال سے بڑا متاثر
ہوا۔

نضر کہتے ہیں کہ مامون نے کاغذ ہاتھ میں پکڑا ————— مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے؟

پھر مامون نے کہا

جب تم تحریر کی سیاہی خشک کرنے کے لیے کسی کو خط پر مٹی ڈالنے کا حکم دو گے تو کیا کہو گے؟ ————— میں نے کہا، میں کہوں گا ”اَثْرِنَا“ اسے خاک آلود کر دو ————— پوچھا کہ اس خط کو کیا کہو گے؟ ————— میں نے کہا ”مُتْرِبًا“ ————— کہنے لگا، لفظ ”طِينُ“ (مٹی) سے کیا کہو گے؟ ————— میں نے کہا، ”طِينًا“ ————— اور اس خط کو کیا کہیں گے؟ ————— میں نے کہا، ”مَطِينًا“ ————— کہنے لگا، یہ پہلے سے بہتر ہے۔

غلام کو حکم دیا، اس تحریر کو مٹی ڈال کر خشک کرو، اور ان کو ساتھ لے کر یہ تحریر فضل بن سهل سے کو پہنچا دو ————— جب میں نے یہ تحریر فضل کو پیش کی تو اس نے کہا، نضر! ————— امیر المؤمنین نے تمہیں پچاس ہزار درہم دینے کا حکم دیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ————— میں نے اسے تمام واقعہ بتایا تو کہنے لگا، تم نے امیر المؤمنین کے تلفظ کو غلط قرار دیا؟ ————— میں نے کہا، ہرگز نہیں! غلطی بشیم بن بشیر کی تھی، وہ بہت غلطیاں کرتا تھا ————— امیر المؤمنین نے تو اس کے بیان کئے ہوئے لفظ کی پیروی کی تھی ————— فضل نے مجھے اپنی طرف سے تیس ہزار درہم دئے ————— مجھ سے ایک صحیح لفظ حاصل کیا گیا، جس کے بدلے مجھے اسی ہزار درہم ملے ————— ۲۰۳ھ میں حضرت نضر بن شہیل کا انتقال ہوا، رحمہ اللہ تعالیٰ ————— ان کی کئی تصانیف ہیں ————— (مجموع الادباء کسی قدر تصرف کے ساتھ)

دور اول میں سلاطین اور امراء ایسے ہی ہوا کرتے تھے —
علماء کی حوصلہ افزائی کرتے، انعام و اکرام کی بارش کر کے انہیں شاد کام
کرتے تھے؟ — ان کے علم و فضل اور علمی مقام کے قدر دان تھے
— وہ خود بھی علم و ادب کے بلند مقام پر فائز تھے — اس
لیے ان کے زمانے میں علم و ادب نے شاندار ترقی کی — انہوں
نے علم و ادب کی بھرپور اشاعت کی — اور ارباب علم کی وہ عزت
افزائی کی کہ ان کا سنہری دور بعد کے تمام زمانوں سے سبقت لے گیا۔

امت مسلمہ کی ترقی کا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ پیکر خلوص
علماء کی عزت افزائی کی جائے — ان کی درست آراء اور قابل
ستائش افکار کی روشنی میں وہ راستے ہموار کئے جائیں جو ملت اسلامیہ کی
کامرانی کی ضمانت ہیں — بلاشبہ ان کے روشن افکار ہی امت مسلمہ
کی ترقی کی مرکزی بنیاد ہیں — ان کی روشنی میں ہی امت مسلمہ
اس صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتی ہے جس میں کوئی کجی نہیں — علماء
دین وہ روشن چراغ ہیں جو مسلمانوں کے لیے خیر اور کامیابی کے راستے منور
کرتے ہیں — مسلمان ان کی راہنمائی سے جمالت اور گمراہی کے
اندھیروں میں راستہ پاتے ہیں — بگڑے ہوئے افکار کو صحیح، عقلی اور
مضبوط بنیادوں پر درست اور تعمیر کرتے ہیں — یہ بنیادیں اتنی
مشکم ہیں کہ شدید سے شدید حملوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔

نضر بن شہیل مروزی، بصرہ کے رہنے والے اور قبیلہ بنی مازن سے تعلق رکھتے تھے

۱۔ _____ ثقہ، محدث، شعر و ادب کے بڑے راوی ————— نحو کے ماہر اور تاریخ کے بڑے عالم تھے ————— ۲۰۰۳ء خراسان میں مامون الرشید کے دور میں فوت ہوئے۔ ۱۲ فروری

۲۔ مرو الثائبمان، خراسان کا مشہور ترین شہر اور اس کا دارالخلافہ تھا ————— بہت بڑا شہر تھا، اس میں خفیوں اور شافیوں کے دو مدرسے تھے ————— اور یہ بڑا خوشحال شہر تھا۔ ۱۲ مجسم البلدان

۳۔ حضرت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب قریشی ہاشمی ————— رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ————— ان کی کنیت ابو العباس تھی، ان کی والدہ ماجدہ ام الفضل بابہ بنت حارث ہلالیہ تھیں۔ ————— حدیث صحیح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور دعا کی ————— اے اللہ! انہیں حکمت سکھا ————— وہ امت مسلمہ کے عظیم عالم، بحر العلوم اور بڑے علم والے صحابہ کرام میں سے تھے ————— ۶۸ء طائف میں ان کا انتقال ہوا ————— بحوالہ اصحابہ۔ ۱۲ فروری

۴۔ فضل بن سہل خراسان میں مامون کا وزیر تھا ————— کہتے ہیں کہ اس سے جان چمڑانے کے لیے مامون نے اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا تھا ————— یہ عجمی الاصل وزیر تھا۔ ۱۲ فروری

اللہ ورسول کا محبوب

جنگ احد کے دن لڑائی زور و شور سے جاری تھی، اتنے میں منادی نے اعلان کیا:

لَا فِتْنَةَ إِلَّا عَلَيَّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ

”مرد میدان صرف علی ہیں اور تلوار صرف ذوالفقار ہے“

اس اعلان کا سبب یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں عظیم جنگی کارنامے انجام دئے تھے ————— وہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے شہسوار تھے ————— ان کے سامنے کوئی جنگجو نہیں ٹھہر سکتا تھا ————— وہ عرب کے ان بہادروں میں سے تھے جن میں سے ہر فرد ایک ہزار افراد پر بھاری تھا ————— ان کی زرہ کا صرف سینہ تھا، پشت نہیں تھی ————— کسی نے ان سے کہا، کہ آپ اس کی پشت کیوں نہیں بنوا لیتے؟ ————— فرمایا، اگر میں دشمن کو اپنی پشت دکھاؤں تو خدا کرے وہ میری زندگی کا آخری دن ہو۔

بدر میں کفار قریش کے ستر افراد مارے گئے ————— ان کا تہائی حصہ حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا ————— باقی دوسرے صحابہ کی تلواروں کا شکار ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ————— غزوہ خندق میں عمرو بن ود عامری اپنے گھوڑے سمیت خندق پھلانگ کر آگیا اور اس نے چیلنج کیا ————— کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے ————— مسلمان اس کی قوت و شجاعت اور حملے کی شدت سے واقف تھے ————— اس لیے حضرت علی مرتضیٰ، شیر خدا رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں گیا۔

تکبر و غرور کے پیکر عمرو بن ود نے چیلنج کرتے ہوئے کہا —

مسلمانو! کہاں ہے تمہاری وہ جنت؟ — جس کے بارے میں تمہارا

خیال ہے کہ تم میں سے جو مارا جائے گا وہ اس میں جائے گا — یہ

ہے تمہارے سامنے جنت، آؤ اور اپنی حسرتیں پوری کر لو

حضرت علی مرتضیٰ کثرے ہو کر کہنے لگے — یا رسول اللہ!

مجھے اجازت دیجئے! میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں — رحمت عالم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوچ لو! یہ عمرو ہے —

عرض کیا، عمرو ہے تو ہوتا رہے — سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی — حضرت علی اس کے

سامنے پہنچے تو اس نے ایک نوجوان کو مقابلہ دیکھ کر بڑے تکبر سے پوچھا،

کون ہو تم؟ — فرمایا، میں علی ہوں — کہنے لگا، عبد مناف

کے بیٹے؟ — فرمایا، نہیں! میں ابو طالب کا بیٹا ہوں —

کہنے لگا، بھتیجے! تم اپنے چچوں میں سے کسی کو بھیجو، جو عمر میں تم سے بڑے

ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا خون بہاؤں — حضرت علی مرتضیٰ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو تیرا خون بہانا، ناپسند نہیں کرتا

— یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، تلوار

میان سے نکالی اور حضرت علی پر حملہ کر دیا — شیر خدا نے ڈھال

آگے بڑھا دی، عمرو نے تلوار کا بھرپور وار کیا، جس سے ڈھال کٹ گئی اس

کے ساتھ ہی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی — پھر ذوالفقار حیدری

بجلی کے کوندے کی طرح لپکی اور اس کے کندھے کے پٹھے کو کاٹی ہوئی گزر

گئی ——— دشمن اسلام کجور کے تنے کی طرح دھڑام سے نیچے گرا اور
جنم پہنچ گیا ——— حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ نے نعرۂ تکبیر بلند کیا
یہ حشر دیکھ کر عمرو کے ساتھی راہ فرار اختیار کر گئے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف
فوجی دستے روانہ کیے تو حضرت ابو بکر کو سفید جھنڈا دے کر خیبر فتح کرنے کے
لیے بھیجا ——— حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا دن
جنگ کی اور پوری قوت صرف کر دی، لیکن شام تک قلعہ فتح نہ ہو سکا۔

دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا، انہوں نے بھی بھرپور
جدوجہد کی اور جان لڑا دی، مگر فتح حاصل نہ ہوئی ——— رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ——— ہم کل اس شخص کو
جھنڈا دیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب ہے ——— وہ
بھاگنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا ———
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں ———
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب
دہن لگایا ——— اور فرمایا، یہ جھنڈا لو! اور روانہ ہو جاؤ ———
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمادے۔

حدیث کے راوی حضرت سلمہ فرماتے ہیں ——— حضرت علی
جھنڈا لے کر تیزی سے روانہ ہو گئے ——— ہم ان کے پیچھے چلتے رہے،
یہاں تک کہ انہوں نے قلعہ خیبر کے نیچے پتھروں کے ٹیلے پر جھنڈا گاڑ دیا
——— قلعے کے اوپر ایک یہودی نے جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ

کون ہیں؟ — فرمایا، علی ابن ابی طالب! — یہودی نے کہا،
رب موسیٰ کی قسم! آپ سر بلند ہو گئے — راوی کہتے ہیں کہ آپ
اس وقت تک واپس نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح نہیں کر
دیا — نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام
حضرت ابو رافع فرماتے ہیں، ہم حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ نکلے —
جب آپ قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے والے، باہر نکل آئے، آپ نے ان
کے ساتھ شدید جنگ کی — ایک یہودی نے تلوار کا بھرپور ہاتھ مارا
'تو ڈھال آپ کے ہاتھ سے گر گئی — آپ نے قلعے کا ایک دروازہ
پکڑ کر ڈھال بنا لیا اور اسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جنگ کرتے رہے
— یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمادی، جب جنگ
سے فارغ ہوئے تو دروازہ پھینک دیا — حضرت ابو رافع فرماتے
ہیں کہ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ ہم آٹھ آدمیوں نے مل کر اسے الٹنا چاہا،
لیکن الٹا نہ سکے۔

جب آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے، تو بیت المال سے کچھ نہیں لیتے
تھے — ان کے پاس اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ
رہا تو بازار میں جا کر اعلان کیا — کہ کون ہے جو میری تلوار خرید
لے؟ — اگر میرے پاس چار درہم بھی ہوتے تو میں اسے فروخت نہ
کرتا۔

آپ پیکر حزن و ملال بن کر محراب میں کھڑے ہوتے اور روتے
ہوئے کہتے — اے دنیا! کسی دوسرے کو دھوکہ دے، کسی دوسرے
پر اپنے فریب کا جال پھینک — میں تجھے حتمی طور پر تین طلاقیں

دے چکا ہوں ————— جن میں رجوع کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک
یودی نے آپ پر دعویٰ کر دیا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا —————
جناب ابو الحسن! آپ اپنے فلاں مخالف کے سامنے کھڑے ہو جائیں
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، لیکن رنج و
ملاں کے آثار ان کے چہرے پر واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر چکے تو فرمانے لگے
'ابو الحسن! آپ مجھ پر ناراض ہوئے ہیں ————— کیا رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرتے وقت ہمارے اور ذمیوں کے درمیان
مساوات ملحوظ نہیں رکھتے تھے؟

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ پر اس لیے
ناراض نہیں ہوا کہ آپ نے فیصلہ کرتے وقت مجھے ذمی کے برابر کھڑا کر دیا،
ناراضی کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کہا، 'ابو الحسن، کھڑے ہو
جائیں اور ذمی کا نام لے کر کہا، کہ اے فلاں کھڑا ہو جا ————— حالانکہ
یوں کہنا چاہیے تھا ————— اے ابو فلاں کھڑا ہو جا، آپ نے مجھے کنیت
سے خطاب کیا اور اسے کنیت سے مخاطب نہیں کیا۔ ————— حضرت عمر
فاروق نے ستائش بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا: ابو الحسن! آپ
نے صحیح کہا ہے ————— اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے چچا زاد بھائی! خدا کرے میں اس شہر میں نہ ہوں جہاں آپ نہ ہوں۔

حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ان دلاور مجاہدوں میں سے تھے جو حنین
کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے

تھے۔

دور آخر کے بد بخت ترین شخص عبدالرحمن بن ملجم نے آپ کو مسجد کے دروازے کے پاس دھوکے سے شہید کیا — اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں اس مقدس ہستی پر نازل ہوں — آپ بڑے جاں باز شہسوار، بار بار حملہ کرنے والے شیر، وسیع العلم، قبحر عالم، زہد و تقویٰ کے پیکر اور نازش فصاحت و بلاغت خطیب تھے۔

نوٹ:

سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت کمزور اشعار منسوب کیے جاتے ہیں — جو آپ کے بلند ترین مقام اور فصاحت و بلاغت کے شایان شان نہیں ہیں — مازنی کا بیان ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے صرف دو شعر مروی ہیں اور وہ یہ ہیں

تِلْكَ قَرِيْشٌ تَمَنَّيْتُ لِتَقْتُلَنِيْ ۚ فَلَا وَرَبِّكَ مَا بَرُّوْا وَلَا ظَفِرُوْا

اِنْ يَّقْتُلُوْنِيْ فِلْيَ مِنْ ذِمَّةِ لَهُمْ

بِذَاتِ وَدَقِيْنٍ لَا يَعْفُوْ لَهَا اَثْرًا

○ یہ قریش ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی آرزو کی — تیرے رب کی قسم! وہ نہ تو اپنی آرزو پوری کر سکے اور نہ ہی کامیاب ہوئے۔

○ اگر وہ مجھے قتل کر دیں تو میرے پاس شدید جنگ کے سبب ان کا ایک عہد ہے جس کا نشان مٹ نہیں سکتا (یعنی میں نے

Click

انہیں سخت نقصان پہنچایا ہے) دیکھیے قاموس مادہ (ودق) ۷
حقیقت یہ ہے کہ ہم تک امام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے جو
خطبات، مواعظ اور بلیغ ارشادات پہنچے ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت ان
ریک شعروں کے ساتھ میل نہیں کھاتی جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ
عنه کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔

۱ یہ وہ جنگ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے پاس لڑی
_____ اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں _____
حضرت امیر حمزہ اور ستر سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے _____ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- ۱۲ فروری

۲ خیبر وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیا _____
مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے، اڑتالیس میل کے فاصلے پر واقع ہے
_____ یہ علاقہ سات قلعوں، کجور کے باغوں اور کھیتوں پر مشتمل ہے۔ ۱۲ عجم
الہمدان

۳ عرب کے دستور کے مطابق کسی کو تعظیم کے ساتھ خطاب کرنا مقصود ہوتا تو کثرت سے
مخاطب کرتے تھے اور جس کی تعظیم مقصود نہ ہوتی _____ اس کا نام لے کر پکارتے
تھے۔ ۱۲ شرف

۴ قاموس اور لسان العرب میں تیسرا مصرع اس طرح ہے وان هلكت فرهن ذمتی لهم۔
۱۲ شرف

خلفاءِ اسلام کی وصیتِ امراء کے نام

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وصیت میمون بن مهران کے نام
میمون بن مهران کہتے ہیں

جب خلیفہ راشد، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے جزیرہ کے خراج کی وصولی اور حران کے بیت المال کے انتظام پر مقرر کیا — تو مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میمون! چار عادتیں چھوڑ دو — (۱) جہاں تک ہو سکے کسی بادشاہ کے پاس نہ جانا، اگرچہ تمہارا خیال ہو کہ تم اسے نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے — (۲) کبھی تثنائی میں کسی اجنبی عورت کے پاس نہ بیٹھنا، اگرچہ تم کہو کہ میں اسے قرآن پاک پڑھاتا ہوں — (۳) کبھی ایسی گفتگو نہ کرنا جس سے تمہیں معذرت کرنی پڑے — (۴) جو شخص اپنے قریبی رشتے داروں سے نیکی نہ کرتا ہو، اس سے کبھی بھلائی کی امید نہ رکھنا

پھر ان کے بیٹے عمر بن میمون کو جزیرے کا حکمران مقرر کر دیا۔

۱ حران شام کا ایک شہر — اس کی طرف نسبت حرانی ہے — حرانی نہیں

ہے - ۱۲ فروری

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت

سعد بن ابی وقاص کے نام

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں غور و فکر کیا کہ لشکر عراق کا کمانڈر کسے بنائیں؟ — اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا — سعد بن ابی وقاص نے قبیلہ ہوازن کے صدقات وصول کرنے پر مقرر تھے — حضرت عمر فاروق اس سے پہلے انہیں لکھ چکے تھے کہ ایسے افراد کی فہرست تیار کرو جو بہادر — اصحاب فکر اور میدان جنگ کے آدمی ہوں — حضرت سعد کا مکتوب اس وقت پہنچا جب فاروق اعظم، صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے تھے کہ عراق بھیجا جائے؟

حضرت سعد نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک ہزار سوار منتخب کئے ہیں — جن میں سے ہر ایک صاحب فکر و دانش اور اپنی قوم کی عزت و ناموس کی پاسداری کرنا جانتا ہے — یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کی فضیلت اور دانشوری کے امین ہیں — حضرت عمر فاروق نے مکتوب پڑھا تو حاضرین نے کہا، آپ کی مطلوبہ شخصیت مل گئی ہے — فرمایا، کون؟ صحابہ کرام نے کہا: صف شکن شیر، سعد بن مالک — فاروق اعظم خوش ہو گئے، وہ سعد کی جاں بازی سے واقف تھے، اس لیے انہیں دلی اطمینان حاصل ہو گیا — چنانچہ انہوں نے پیغام بھیج کر انہیں بلایا اور جنگ عراق کا کمانڈر بنا دیا — اور جانے سے پہلے انہیں جو نصیحت کی وہ حضرت سعد کے لیے سند کا درجہ رکھتی تھی — اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے معاون بھی تھی۔

وہ نصیحت یہ تھی

”اے سعد! بنو وہیب کے سعد! تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مغرور نہ کر دے کہ تمہارے بارے میں کہا گیا ہے — کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں اور صحابی ہو — اللہ تعالیٰ بُرائی کو بُرائی سے نہیں، بلکہ بُرائی کو نیکی سے مٹاتا ہے — اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اگر کوئی تعلق ہے تو وہ اس کی فرمانبرداری کا ہے — اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب لوگ برابر ہیں — اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے اور وہ اس کے بندے ہیں — ان میں سے فضیلت والا وہی ہے جسے وہ امن و عافیت عطا فرما دے — بندے اطاعت ہی کے ذریعے اجر و ثواب پاتے ہیں — اس طریقے کو پیش نظر رکھو، جس پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے — اسے لازم پکڑ لو کہ وہی صحیح طریقہ ہے۔

آپ کے لیے میری یہی نصیحت ہے — اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے اعراض کیا — تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا — اور آپ خسارے والوں میں سے ہوں گے“

امیر المؤمنین عمر فاروق نے انہیں صبر اور ثابت قدمی کی نصیحت کی — انہیں اور ان کے ساتھ جمع ہونے والے چار ہزار مجاہدوں کو رخصت کیا — یہ لشکر اصحاب شوکت و دانش افراد پر مشتمل تھا — حضرت عمر فاروق نے ہر ایک سردار مفکر، صاحب اقتدار و شوکت اور ہر خطیب اور شاعر کو نصیحت فرمائی — یہ لشکر عرب کے نامور بہادروں اور میدان جنگ کے آزمودہ کار چیدہ چیدہ افراد پر مشتمل تھا۔

انہیں رخصت کرتے وقت یہ بھی نصیحت کی
میں نے آپ کو جنگ عراق کا کمانڈر بنایا ہے، آپ میری نصیحت کو
یاد رکھیں! — آپ کو بہت ہی سخت اور ناگوار معاملے سے واسطہ
پیش آئے گا۔ جس سے نیکو کار ہی بچ کر نکل سکتا ہے —
اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نیکی کا عادی بنائیں اور اس کی
برکت سے فلاح حاصل کریں — یاد رکھئے! کہ ہر عادت کا ایک بنیادی
عصر ہوتا ہے اور نیکی کا بنیادی عصر صبر ہے — لہذا آپ کو جو
تکلیف اور مصیبت پیش آئے اس پر صبر کرنا — بس صبر کرنا
— اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ کو میرا آجائے گی — یہ حقیقت
ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت دو چیزوں میں جمع
ہوتی ہے — (۱) اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اپنانا — (۲) اس کی
نافرمانی سے بچنا — اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بنیاد، دنیا سے نفرت اور
آخرت سے محبت ہے — اور نافرمانی کی بنیاد دنیا کی محبت اور آخرت
کی عداوت ہے — دلوں کی کچھ حقیقتیں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ پیدا
فرماتا ہے — ان میں سے کچھ مخفی ہیں اور کچھ ظاہر — ظاہر یہ
ہے کہ انسان کے نزدیک راہ حق میں تعریف اور مذمت کرنے والا برابر ہو
— مخفی حقیقت کا پتا اس طرح چلتا ہے کہ اس کے دل سے حکمت و
دانش کی باتیں اس کی زبان پر آ جاتی ہیں — اور لوگ اس سے
الہامانہ محبت کرتے ہیں، لہذا محبوبیت سے کبھی بے نیاز نہ ہونا — انبیاء
کرام نے لوگوں کی محبت کی دعا کی ہے — اللہ تعالیٰ جب کسی
مذمے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اسے لوگوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے —
اور جب کسی کو دشمن قرار دیتا ہے تو اسے لوگوں کی نظر میں بھی دشمن بنا دیتا
ہے — اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو
آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا مقام آپ کے ان بھائیوں کے نزدیک کیا ہے؟
— جو دین کے راستے پر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔

خلفاء کرام، لشکروں کے کمانڈروں کو ایسی نصیحتیں کرتے تھے جو تمام مجاہدوں کے دلوں میں عظیم روح پھونک دیتی تھیں۔ چنانچہ ان کی روحیں مادی دنیا سے بہت اونچی ہو جاتی تھیں۔ اور عظمتوں کی بلندیوں کو چھونے لگتیں تھیں۔ ان کی تمام تر توجہ، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرنے اور نافرمانی کے ترک کرنے کے ذریعے فضائل و کمالات کے حاصل کرنے کی طرف ہوتی تھی۔ اسی لیے فتح و نصرت ان کے ہم رکاب ہوتی تھی۔ اور وہ جد ہر رخ کرتے تھے، عزت اور کامرانی ان کے قدم چومتی تھی۔

۱۔ سعد بن مالک اور سعد بن ابی وقاص ایک ہی شخصیت ہے، جلیل القدر صحابی، سترہ سال کی عمر میں اسلام لائے۔ فرماتے ہیں کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے اسلام لایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے خون بہایا اور تاریخ اسلام میں پہلے ہتھیار چلانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں شریک ہوئے اور جاں نثاری کا خوب خوب مظاہرہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی طرف توجہ فرماتے تو ارشاد فرماتے۔ یہ ہمارے ماموں ہیں، ہمیں کوئی شخص ان جیسا ماموں تو دکھائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوت تھے۔ زیر دست تیر انداز تھے، انہوں نے احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہزار تیر چلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرماتے تھے۔ سعد! میرے ماں باپ تم پر فدا، تیر چلاؤ۔ مقام عقیق میں ان کا وصال ہوا، ماجر صحابہ میں سے سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا۔ جب لشکر عراق کے کمانڈر بنائے گئے تو اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی۔ ۱۲ فروری

ابن مبارک

س ————— انسان کون ہیں؟

ج ————— علماء

س ————— بادشاہ کون ہیں؟

ج ————— جو دنیا سے بے رغبت ہوں

س ————— کینہ کون ہے؟

ج ————— جو اپنا دین بیچ کھائے

یہ عبد اللہ بن مبارک کے جوابات ہیں ————— جب ان سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہیں؟ —————؟ بادشاہ کون ہیں؟ ————— اور کینہ کون ہے؟ ————— انہوں نے لوگوں کے صحیح فہم کے لیے ایسا راستہ کھول دیا جس سے وہ مانوس نہیں تھے ————— کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب میں یہ آیت کریمہ اتاری ہے جو علماء کی عظمت اور ان کی رفعت شان کی دلیل ہے

ارشاد فرمایا

إِنَّمَا يَجْتَنِبُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ

”اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں“

اس لیے علم وہ معزز شے ہے جس کی عزت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ علم اپنے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے وقف ہو ————— علم برائے علم ہی ہونا چاہیے ————— حقیقت یہ ہے کہ جو شخص علم کو کسی دوسری چیز کے حصول کا ذریعہ بنائے وہ ذلیل ہوتا ہے ————— اگرچہ مال و جاہ اور منصب کے اعتبار سے بلند مرتبہ رکھتا ہو۔

عبد اللہ بن مبارک جب حج کرنے کے لیے خراسان سے مکہ مکرمہ پہنچے ————— تو خراسان کے شہرہ آفاق عالم و عارف کا استقبال کرنے

— اور ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے سب لوگ اٹھ پڑے
— مکہ معظمہ میں صرف بچے اور بوڑھے رہ گئے یا پھر کچھ عورتیں
ہارون رشید کی ایک بیوی مکہ مکرمہ میں تھی، وہ کہنے لگی — کیا بات
ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا؟ — اسے بتایا گیا کہ
لوگ خراسان کے نادر روز علامہ، عبداللہ بن مبارک کا استقبال کرنے اور
ان سے برکت حاصل کرنے گئے ہیں — اسے اس بات پر تعجب ہوا
کہ لوگوں کے دلوں کے رابطے اپنے علماء سے اس قدر مضبوط ہیں
— اسے احساس ہوا کہ بادشاہ تو صرف جسموں پر حکمرانی کرتے ہیں
— روحوں پر تو علماء کی حکمرانی ہے — اس نے دیوار پر ہاتھ
مار کر کہا، یہ حقیقی حکومت ہے — ہارون رشید کی حکومت حقیقی نہیں
جو لوگوں کو ڈنڈوں کی زد پر جمع کرتی ہے۔

ابن مبارک نے امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا
— ایک دن امام اعظم نے ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں
دریافت کیا — پہلے تو وہ شرمائے، پھر کہنے لگے — میں ایک
دن اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گانے والی عورت کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا
— ہم رات تک کھاتے پیتے رہے، مجھے ظنہورہ بجانے کا بہت شوق
— ساری رات اسی شوق کو پورا کرنے میں گزر گئی —
— سحری کے وقت سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرندہ عین میرے سر پر بیٹھا ہوا
کہ رہا ہے

الْحَرِيَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ

لِيَذْكُرَ اللَّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

”کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، کہ ان کے دل اللہ
کے ذکر اور نازل ہونے والے حق کے لیے جھک جائیں“۔
میں نے خواب ہی میں کہا، کیوں نہیں! کیوں نہیں! — جب

میں بیدار ہوا تو میرا دل رعب اور ہیبت سے بھرا ہوا تھا۔۔۔۔۔ میں نے اٹھ کر اپنا ظنورہ توڑ دیا، اور لہو و لعب کے جتنے آلات میرے پاس تھے۔۔۔۔۔ سب جلا کر خاکستر کر دئے۔۔۔۔۔ یہ دنیا اور اس کی لذتوں سے میری بے رغبتی کا آغاز تھا۔۔۔۔۔ عبداللہ بن مبارک زہد و تقویٰ، علم و ادب اور شعر و شاعری کی منزلیں طے کرتے رہے۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ جامع کمالات بن گئے۔۔۔۔۔ علم و فضیلت میں امام اور مقتداء بنے۔۔۔۔۔ فضیلت و برتری میں اس بلند ترین جماعت کے رکن رکن بن گئے۔۔۔۔۔ جن کی ہر جگہ اور ہر زمانے میں اقتداء کی جاتی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

يُجَادُونَ النَّاسَ مَعَادِينَ خِيَارَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارَهُمْ فِي
الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا

تم لوگوں کو خوبیوں کی کانیں پاؤ گے۔۔۔۔۔ ان میں سے جو دور جاہلیت میں بہترین تھے، وہ اسلام میں بہترین ہونگے۔۔۔۔۔ جب کہ وہ دین کا فہم حاصل کر لیں۔

۱۔ القرآن الحدید، آیت - ۱۲

۲۔ یہ حدیث امام بخاری نے کتاب بدء الخلق کے باب مناقب قریش میں روایت کی
۱۲۔ فرغوز

سناوت کا پیکر مجسم

عبد اللہ بن جدعان 'دور جاہلیت میں شہرہ آفاق سخی' اور جوہ و کرم کا چلتا پھرتا پیکر تھے۔۔۔۔۔ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔۔۔۔۔ ان کی کنیت ابو زہیر تھی اور قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔۔۔۔۔ شراب کے بڑے رسیا اور ولدادہ تھے۔۔۔۔۔ ایک دن دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر جام پہ جام چڑھاتے گئے۔۔۔۔۔ جب شراب کے نشے نے اپنا رنگ دکھایا۔۔۔۔۔ اور ہوش حواس جواب دے گئے تو ہاتھ بدھا کر چاند کو پکڑنے کی کوشش کی۔۔۔۔۔ مدہوشی میں سمجھ بیٹھے کہ چاند قریب ہی ہے۔۔۔۔۔ ان کے ساتھی خوب ہنسے اور ان کا بری طرح مزاح اڑایا۔۔۔۔۔ نشہ اترنے پر جب انہیں یہ کیفیت بتائی گئی۔۔۔۔۔ تو اپنے فعل پر برے نادم اور شرمسار ہوئے۔۔۔۔۔ انہیں احساس ہو گیا کہ شراب خانہ خراب، باعزت آدمی کو ذلیل اور معزز آدمی کے وقار کو مجروح کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ زندگی بھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔۔۔۔۔ انہوں نے شراب کے نقصانات، بے عزتی، زلت و رسوائی کو دیکھتے ہوئے 'اسلام سے پہلے ہی دور جاہلیت میں شراب اپنے اوپر حرام کر لی۔

ابن جدعان، صاحب الجفندہ کے لقب سے مشہور تھے۔۔۔۔۔ انکی دیگ اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی شخص اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اس میں سے کھا سکتا تھا۔۔۔۔۔ ایک دفعہ ایک چھوٹا بچہ اس میں گر کر ڈوب گیا۔۔۔۔۔ جسے مردہ حالت میں نکالا گیا۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "ہم عبد اللہ بن جدعان کی دیگ کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے"۔

وہ ابتداءً قلاش، شریپند، لٹیرے اور جرائم پیشہ تھے۔۔۔۔۔

لوگ ان کے والد اور ان کی قوم کے پاس شکایتیں لے کر آتے — اور انہیں بہت سا مال دیت اور جرمانے کے طور پر دینا پڑتا — تنگ آکر خاندان والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا — باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا اور عاق کر دیا — چونکہ انہوں نے اپنے باپ کو بہت تکلیفیں دی تھیں اور جرمانوں کا بھاری بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا تھا — اس لیے اس نے قسم کھائی کہ میں انہیں کبھی پناہ نہیں دوں گا۔

جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا والد اور خاندان ان کا دشمن بن گیا ہے — وہ سب ان کے خلاف متفق ہو گئے ہیں اور ان کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہی — تو وہ حیران اور پریشان مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں موت کی تلاش میں مارے مارے پھرنے کے لیے نکل گئے — ایک وقت تھا جب وہ عزت و دولت اور ارجندی کی زندگی بسر کر رہے تھے — آج یہ حالت تھی کہ فقر و فاقہ اور بدبختی کا ہولناک رقص ان کے آگے پیچھے جاری تھا — اس لیے ان کی آرزو تھی کہ کاش! موت مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔

شریف النفس کا یہی حال ہوتا ہے — اس کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے گر جانا — پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر جانے کی نسبت آسان ہوتا ہے — چلتے چلتے انہیں پہاڑ کا ایک شکاف دکھائی دیا، وہ بے دھڑک اس میں داخل ہو گئے — ان کی خواہش ہی یہ تھی کہ اندر کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے ہلاک کر دے — اور اس شقاوت و مشقت سے نجات دلا دے جسے میں برداشت کر رہا ہوں — لیکن انہیں ایسی کوئی چیز بھی تو نظر نہ آئی — وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر بہت بڑے اژدھا پر پڑی — جس کی آنکھوں سے چراغوں ایسے شعلے نکل رہے تھے — ابھی وہ پورے غور کے ساتھ اسے دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ اژدھانے حملہ کر دیا — اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ان کی طرف بڑھا

ان پر وہشت طاری ہو گئی اور غیر ارادی طور پر ایک طرف ہٹ کر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔۔۔۔۔ اڑدھا ان پر نظر غلط ڈالے بغیر پیچھے ہٹ گیا۔

انہیں حیرت ہوئی کہ یہ کیا اڑدھا ہے؟۔۔۔۔۔ جس نے معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچائی۔۔۔۔۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جیتا جاگتا اڑدھا نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ دھات یا کسی دوسری چیز کا مصنوعی اڑدھا ہے۔۔۔۔۔ جی کڑا کر کے، نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے، اس کی طرف بڑھے۔۔۔۔۔ اور قریب جا کر اس پر ہاتھ ڈال دیا۔۔۔۔۔ وہ واقعی سونے کا مصنوعی اڑدھا تھا۔۔۔۔۔ اس کی آنکھوں میں دو یا قوت جڑے ہوئے تھے، جو چراغ کی طرح جگمگا رہے تھے۔۔۔۔۔ انہوں نے سانپ کی گردن مڑور دی اور اس کی دونوں آنکھیں نکال لیں۔۔۔۔۔ پھر انہیں پہاڑ کے اسی شکاف میں ایک کمرہ دکھائی دیا۔۔۔۔۔ وہ اس میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چار پاپیوں پر لمبی لمبی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ ان کے سر ہانے سونے کی تختیاں رکھی ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ جن پر اشعار اور نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں۔

ایک تختی پر لکھا ہوا تھا

میں نفعیہ بن عبد اللہ بن حشر بن عبد یلیل بن جرم بن قحطان بن نبی اللہ سیدنا ہود علیہ السلام ہوں۔۔۔۔۔ میں پانچ سو سال زندہ رہا۔۔۔۔۔ میں نے دولت اور حکومت حاصل کرنے کے لیے تمام زمین کو اندر، باہر کنگال ڈالا۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا نہ سکا۔

ایک دوسری تختی پر لکھا ہوا تھا

قَدْ قَطَعْتُ الْبِلَادَ فِي طَلَبِ الثَّرْوِ ۖ وَالْمَجْدِ قَالِصِ الْأَنْوَابِ
وَوَصَلْتُ الْبِلَادَ قَفْرًا يُقْفِرُ بِقِنَاتِي وَقُوتِي وَكِتَابِي
فَأَصَابَ الرَّدَى بَنَاتِ فُؤَادِي بِسَهَامٍ مِّنَ الْمَنَابِ صِيَابِ
فَأَنْقَضَتْ شِرَّتِي وَأَقْصَرَجَهْلِي وَأَسْتَرَأَحْتُ عَوَازِي مِّنْ عِتَابِي
وَدَفَعْتُ السَّفَاةَ بِالْحِلْمِ لَمَّا نَزَلَ الشَّيْبُ فِي مَحَلِّ الشَّبَابِ

صَاحِ هَلْ رَيْتَ أَوْسَيْعَتَ بَدْرِهِ
رَدَفِي الصَّرْعِ مَا قَدِي فِي الْحِلَابِ

○ میں نے نئے نئے کپڑے پہن کر دولت و شرافت کی تلاش میں
شہروں کے شہر طے کئے

○ غل اپنے نیزے، طاقت اور کمائی کے بل بوتے پر صحراء بصرہ
گھومتا ہوا شہروں تک پہنچا۔

○ تو موت نے نشانے پر لگنے والے ہلاکتوں کے تیر، میرے دل کی
شریانوں میں پیوست کر دیئے

○ میری تیز طراری دھری کی دھری رہ گئی، میری جمالت دم توڑ گئی،
اور ملامت کرنے والی خواتین کی جان مجھے کونے سے چھوٹ گئی۔

○ جب بڑھاپے نے جوانی کی جگہ لے لی تو میں نے علم کے ذریعے
لوگوں کی بے وقوفی کا دفاع کیا۔

○ اے دوست! تو نے کبھی دیکھا یا سنا؟ کہ کسی چرواہے نے برتن میں
دوہا ہوا دودھ جانور کے تھنوں میں واپس لوٹا دیا ہو (اسی طرح گئی ہوئی
جوانی اور زندگی واپس نہیں آتی)

عبداللہ بن جدعان کو اس گھر میں سرخ یا قوت، تابعدار موتیوں، سونے،
چاندی اور زبرجد کا ڈھیر ملا۔ انہوں نے جو کچھ اٹھا سکتے، اٹھا لیا اور
باہر نکل آئے۔ دروازے کو پتھروں سے بند کیا اور پہاڑ کے شکاف

پر نشان لگا دیا — باپ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھیروں مال اس کے پاس بھجوا دیا — خاندان کے افراد نے جو ان سے قطع تعلق کر چکے تھے از سر نو ان سے تعلقات استوار کئے — ان میں سے ہر ایک کو بیش قیمت تحائف پیش کئے — جلد ہی اقرباء نوازی کی بدولت اپنے قبیلے کے سردار بن گئے — اور اس خزانے کو حاکمیتوں پر لٹانا شروع کر دیا — کھانا کھلانا، کپڑے تقسیم کرنا اور جو دوستا، شب و روز کا معمول بن گئے — یہاں تک کہ وہ اس زمانے میں سخاوت و کرم کی درخشندہ مثال بن گئے — ان کی فیروز بختی کا ستارہ جو بے نور ہو چکا تھا، جگمگ کرنے لگا — اور جو لوگ انہیں نفرت و حقارت کی بنا پر چھوڑ گئے تھے — وہ پھر ان کے حلقہ یاراں میں داخل ہو گئے۔

حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آئی

اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَاَعْطِ مُسِيكًا تَلْفًا۔

”اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور بخیل کا مال تلف فرما۔“

۱۔ امام بخاری نے یہ حدیث باب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے — اس کے ابتدائی کلمات یہ ہیں - مامن یوم یصبح العباد فیہ (الحلیث) امام مسلم بھی یہ حدیث باب الزکوٰۃ میں لائے ہیں - ۱۲ فرقہ

تفاصلاً بیان قناعت اور عفت

منصور جب خلیفہ نہیں بنا تھا، اس وقت عمرو بن عبید اس کا یار غار تھا، ان کے درمیان بڑی دوستی اور محبت تھی۔۔۔۔۔ ان کی آپس میں بری بے تکلف مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔۔۔۔۔ اور اس دور کے کئی یادگار واقعات تھے۔

ایک دن عمرو بن عبید، ابو جعفر منصور سے ملاقات کے لیے گئے۔۔۔۔۔ خلیفہ وقت بڑے احترام سے پیش آیا، اپنے پاس بٹھایا، اور دوستانہ انداز میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا۔۔۔۔۔ مجھے کچھ نصیحت کیجئے! عمرو نے اسے دنیا و آخرت میں نفع دینے والی اور راہ نجات ہموار کرنے والی نصیحتیں کیں۔۔۔۔۔ پھر کہنے لگے، 'آج یہ اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم سے پہلے لوگوں کے پاس رہتا تو تم تک نہ پہنچتا۔۔۔۔۔ اس لیے اس رات سے ڈرو جو تمہاری زندگی کی آخری رات ہو۔'

منصور نے ان کی گفتگو سننے کے بعد کہا، 'ہم تمہارے لیے دس ہزار درہم کا حکم دیتے ہیں۔۔۔۔۔ عمرو نے کمال قناعت اور غنائے نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، 'مجھے نہیں، چاہوں یہ درہم۔۔۔۔۔ خلیفہ نے ان کی بات سنی تو حیران رہ گیا۔۔۔۔۔ اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ اس کا عطیہ یوں رو کر دیا جائے گا۔۔۔۔۔ اس نے قسم کھا کر کہا: واللہ! تم یہ درہم ضرور لو گے۔۔۔۔۔ عمرو نے بھی قسم کھا کر کہا، 'واللہ! میں نہیں لوں گا۔'

منصور کا بیٹا مہدی حاضر تھا۔۔۔۔۔ اس نے دونوں کو قسم کھا کر بات کرتے ہوئے سنا، تو کہنے لگا۔۔۔۔۔ امیر المؤمنین بھی قسم کھاتے ہیں

اور آپ بھی قسم کھاتے ہیں؟ — میرا مطلب یہ ہے کہ اگر خلیفہ قسم کھائیں تو آپ کو ان کے مقابل قسم نہیں کھانی چاہیے بلکہ اطاعت کرنی چاہیے۔

عمرو نے منصور کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ جوان کون ہے؟
— منصور نے کہا — یہ میرا ولی عہد اور بیٹا مدی ہے۔
— عمرو نے کہا، اللہ کی قسم! تم نے اسے وہ لباس پہنایا ہے جو صالحین کا لباس نہیں ہے — تم نے اس کا نام ایسا رکھا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے — تم نے اس کے لیے اقتدار کا انتظام کیا جو اس کے لیے فائدہ مند تو ضرور ہو گا — لیکن اس کی پوری توجہ حاصل نہیں کر سکے گا۔

پھر عمرو نے مدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا
”بھتیجے! تیرے باپ نے قسم کھائی اور تیرے چچا نے اس کی قسم توڑ دی — کیونکہ تیرا باپ، تیرے چچا کی نسبت کفارہ ادا کرنے کی طاقت زیادہ رکھتا ہے“

منصور اس کی جرأت اور فصاحت دیکھ کر حیران رہ گیا — کہنے لگا، آپ کا کوئی کام ہو تو بتائیں؟ — اس کا خیال تھا کہ میں اس کا کوئی بھی کام کر سکتا ہوں — لیکن عمرو نے بلندی مت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کبھی نہ بلوائیں — میں نے آنا ہوا تو خود آ جاؤں گا — خلیفہ کو اس خلاف توقع جواب سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ کئی لمحے کوئی بات نہ کر سکا — کچھ دیر بعد کہنے لگا، تب تو آپ مجھ سے ملاقات ہی نہیں کر سکیں گے — عمرو نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں — یہ کہا اور خلیفہ کو اس کے خیالات میں گم چھوڑ کر اپنی راہ لی — خلیفہ انہیں تعجب اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔

یہ تھی خلیفہ کے بمقابلہ علماء کی عظمت — جب خلفاء، سلاطین اور امراء اپنے علماء سے مشورے لیتے تھے — اور چونکہ قلعے علماء حکمرانوں اور امراء کے مال و دولت سے بے نیاز ہوتے تھے — اس لیے ان کے نامحاذ مشوروں سے ارباب اقتدار کی غلطیوں کی اصلاح ہو جاتی تھی۔

مسلمانوں کے بارے میں

شاہ چین کی شاہ ایران کو نصیحت

جب شاہ ایران کا پایہ تخت مدائن فتح ہو گیا۔۔۔ اور عرب مسلمانوں کا اثر و نفوذ سر زمین ایران میں بڑھا۔۔۔ تو شاہ ایران نے عربوں کے خلاف امداد حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک سفیر شاہ چین کے پاس بھیجا۔۔۔ بادشاہوں کی یہ روایت ہے کہ وہ مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہیں۔۔۔ سفیر شاہ چین کے بھاری بھرم تحائف لے کر واپس آیا۔۔۔ اور اس نے یزدجرد کو رپورٹ دیتے ہوئے بتایا۔۔۔ شاہ چین نے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا 'جو ہمارے شہروں پر مسلط ہو گئے ہیں۔۔۔ اس نے یہ بھی کہا' کہ تمہارے بیان کے مطابق ان کی تعداد کم ہے۔۔۔ اور تمہیں تعداد کے اعتبار سے ان پر برتری حاصل ہے۔۔۔ حالانکہ میں نے سنا ہے کہ وہ قلت تعداد کے باوجود تمہاری کثرت پر بھاری رہتے ہیں۔۔۔ وہ فائدے میں رہتے ہیں اور تمہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

میں نے کہا' آپ اپنی پسند کی جو بات پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں
شاہ چین۔۔۔ جب وہ معاہدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں؟
سفیر۔۔۔ جی ہاں

شاہ چین۔۔۔ جنگ کرنے سے پہلے وہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟
سفیر۔۔۔ ہمیں تین باتوں میں سے ایک کی دعوت دیتے ہیں
(۱) ہم ان کے دین کی پیروی کریں' اگر ہم ان کی دعوت قبول کر لیں تو ہمارا اور ان کا راستہ ایک ہو جائے گا۔۔۔ جو ان کے حقوق وہی ہمارے' اور جو ان کی ذمہ داریاں' وہی ہماری ذمہ داریاں ہوں گی (۲) ہم انہیں جزیہ ادا کریں (۳) جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔
شاہ چین۔۔۔ وہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کیسی کرتے ہیں؟

سفر۔۔۔۔۔ جس طرح نہایت فرمانبردار مرید اپنے مرشد کی اطاعت کرتے ہیں

شاہ چین۔۔۔۔۔ وہ کن چیزوں کو حلال اور کن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں؟

سفر۔۔۔۔۔ فلاں فلاں چیزوں کو حرام اور باقی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں

شاہ چین۔۔۔۔۔ جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اسے کبھی حرام بھی جانتے ہیں؟

اور جس چیز کو وہ حرام کہتے ہیں اسے کبھی حلال بھی قرار دیتے ہیں؟
سفر۔۔۔۔۔ نہیں

شاہ چین۔۔۔۔۔ سن لو! جب تک یہ لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار نہیں دیں گے، کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔

شاہ چین۔۔۔۔۔ ان کے لباس کے بارے میں بتاؤ؟
سفر۔۔۔۔۔ وہ ایسا ایسا لباس پہنتے ہیں۔

شاہ چین۔۔۔۔۔ ان کی سواریاں کیا ہیں؟
سفر۔۔۔۔۔ عربی گھوڑے۔۔۔۔۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اوصاف

بھی بیان کر دیجئے
شاہ چین۔۔۔۔۔ یہ تو بہت عمدہ گھوڑے ہیں۔

سفر۔۔۔۔۔ وہ اونٹوں پر بھی سواری کرتے ہیں، نیز یہ بھی بتایا کہ ان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟

اور وہ بوجھ سمیت کس طرح اٹھتے ہیں؟
شاہ چین۔۔۔۔۔ ہاں! لمبی گردنوں والے جانوروں کا یہی وصف ہے۔

شاہ چین نے سفر کے ذریعے شاہ ایران یزدجرد کو یہ تحریری پیغام بھجوایا
میں تمہارے پاس ایسا لشکر بھجوا سکتا ہوں جس کا اگلا حصہ مرو میں

اور پچھلا حصہ چین میں ہو۔۔۔۔۔ اس سلسلے میں رکاوٹ صرف یہ ہے کہ
تمہارے سفر نے مسلمانوں کے جو اوصاف بیان کئے ہیں۔۔۔۔۔ ان کی

بنا پر اگر یہ لوگ چاہیں تو پہاڑوں کو اکھیڑ کر پھینک دیں — اگر وہ ان اوصاف کے حامل رہے اور انہیں راستہ خالی مل گیا، تو وہ دن دور نہیں جب کہ وہ میرا بھی تختہ الٹ دیں گے — اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر لو، اور پر امن طریقے پر ان کے ساتھ زندگی گزارو — اور جب تک وہ تمہیں نہ چھیڑیں، تم بھی انہیں نہ چھیڑو۔

ہاں! یہی وہ عمدہ ترین صفات ہیں جو مسلمانوں نے تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں اپنائیں — یہی وہ حقیقی طاقت تھی، جو شاہی تختوں کو بنیادوں سے اکھیڑ دیتی تھی — ملکوں کو فتح کرتی تھی — مسلمانوں کو خیرہ کن اور پائیدار عزت و عظمت عطا کرتی تھی — اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں فیروز بختی کی ضمانت تھی۔

<http://t.me/Tehqiqat>

صحابہ کرام کا شوقِ علم

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کثیر تعداد میں حدیثیں روایت کی ہیں۔ اکثر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیس جنگوں میں شرکت فرمائی، جن میں سے انیس میں، میں بھی شریک ہوا۔ یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میرے لیے پچیس مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ انہیں پتا چلا کہ مصر کے قاضی حضرت عبد اللہ بن انیس جہنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ جو کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں ملی۔ حضرت جابر نے بازار جا کر ایک اونٹ خریدا، اس پر کجاوہ کسا اور سوار ہو کر مدینہ منورہ سے چل دیئے۔ ایک ماہ تک جنگلوں اور صحراؤں کو طے کرتے ہوئے مصر پہنچ گئے۔ پوچھتے پوچھتے حضرت عبد اللہ بن انیس کے گھر پہنچ گئے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک سیاہ فام غلام نے باہر آ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، جابر بن عبد اللہ۔ غلام نے اپنے آقا عبد اللہ بن انیس کو بتایا کہ جابر بن عبد اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان سے جا کر پوچھو! کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ غلام نے باہر آ کر پوچھا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں؟ حضرت جابر نے فرمایا، ہاں!

حضرت عبداللہ نے خود باہر آ کر ملاقات کی اور معافہ کیا
پھر دریافت کیا 'برادر محترم! کیسے آنا ہوا؟' حضرت جابر
فرماتے ہیں 'میں نے کہا ————— قصاص کے بارے میں آپ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔

آپ کے سوا اس حدیث کا روایت کرنے والا کوئی صحابی باقی نہیں
رہا۔———— میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا انتقال ہو جائے یا
میرا' آپ سے وہ حدیث حاصل کر لوں۔———— چنانچہ وہ حدیث سنی اور
خوشی سے واپس مدینہ طیبہ چلے گئے۔———— مصر میں داخل ہوئے اور نہ
ہی اس کے نظاروں سے لطف اندوز ہوئے۔———— بلکہ سفر کی تھکاوٹ
دور کرنے کے لیے آرام تک نہ کیا۔———— انہوں نے دنیا کی زیب و
زینت اور دلکش مناظر میں بالکل دلچسپی نہ لی۔———— اور بلکہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو دونوں جہانوں کا سرمایہ
جانتے ہوئے اسی پر اکتفا کیا۔

یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا شوق علم، اور اس کے لیے
دور دراز کے سفر کی مشقتوں کا برداشت کرنا۔———— ان کے علمی شوق
کے آگے، کوئی چیز سدراہ نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی وہ کسی رکاوٹ کو
خاطر میں لاتے تھے۔———— ان کے دلوں میں علم کی رفعت و عظمت
جاگزیں تھی۔———— وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت پناہ میں
ایک طالب علم کے لیے کتنی بخشش ہے؟———— اور کتنا شاندار ثواب
ہے؟———— اسی لیے وہ علم کا مختصر سا حصہ حاصل کرنے کے لیے طویل
سفر کی مشقتوں اور صعوبتوں کو برداشت کر لیتے تھے۔

۱ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ۷۷۸ھ کو ہوا۔———— مدینہ منورہ میں وصال فرمانے
والے آخری صحابی تھے۔ ۱۲ فروری

۲ حضرت عبداللہ انیس مدنی، انصاری کی کنیت ابو سعید تھی، یہ ان انصار میں شامل تھے جنہوں نے
بنو سلمہ کے بت توڑے۔———— بیت عقبہ وغیرہ کے موقع پر حاضر ہوئے۔———— ۷۸۰ھ میں ان کا
وصال ہوا۔ ۱۲ فروری

فاروق اعظم کی سیت

حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امراء کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے ————— وہ ایسے لوگوں کو منتخب کرتے تھے جو قناعت، پاکبازی اور مسلمانوں کی خدمت کے جذبے میں آپ کے معیار پر پورے اترتے تھے ————— وہ جن چیزوں کا حکم دیتے یا جن امور سے منع کرتے، پہلے خود ان کی پابندی کرتے تھے ————— وہ اپنی قوم مسلم کو فوائد سے بہرہ ور کرنے میں پیش پیش رہتے ————— امت مسلمہ کے فائدے کو حکمران کے ذاتی فائدے پر ترجیح دیتے تھے ————— آپ کے مقرر کردہ بہت سے عامل آپ کے نقش قدم پر چلتے تھے ————— چنانچہ وہ پیوند لگا ہوا اون کا لباس پہنتے تھے ————— جو کی روٹی کھاتے ————— اور دراز گوش کی پشت پر ٹاٹ ڈال کر سواری کرتے تھے۔

ذیل میں ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ چند عاملوں کا تذکرہ کریں گے:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ابو عبیدہ بن الجراح کے گھر جا کر ان سے ملاقات کریں ————— اس وقت ابو عبیدہ مسلمانوں کے وزیر مال تھے ————— انہوں نے کہا، امیر المؤمنین! مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں کے پیمانے چمک پڑیں ————— حضرت فاروق اعظم نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے تمہارے گھر میں ضرور ملاقات کروں گا ————— جب فاروق اعظم،

ابو عبیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک جبہ —
بکری کی ایک کھال — ایک کھانے پینے کا اور دوسرا وضو کرنے کا
برتن تھا — اس کے علاوہ کچھ نہ تھا — انہیں ایسا گھر دکھائی
دیا جیسے وہ غریب ترین مسلمان کا گھر ہو — فاروق اعظم کی آنکھیں
اشکبار ہو گئیں — حضرت ابو عبیدہ نے کہا، امیر المؤمنین! میں نے
آپ سے نہیں کہا تھا — کہ میں آپ کی آنکھوں سے بننے والی
آنسوؤں کی بڑکھا نہیں دیکھنا چاہتا۔

اللہ تعالیٰ ان طیب و طاہر نفوس قدسیہ پر رحمت و رضوان کی
بارشیں نازل فرمائے — بے شک وہ اقوام عالم کے لیے
عظمتوں کے جگمگاتے ہوئے مینار تھے“

عمال حکومت کے لیے حضرت عمر فاروق کی ہدایات

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنروں کو کسی
جگہ بھیجتے تو انہیں درج ذیل ہدایات جاری کرتے تھے۔

تم ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا — چھنے ہوئے
آٹے کی روٹی نہ کھانا — باریک کپڑا نہ پہننا —
لوگوں کی حاجتوں کے آگے اپنے دروازے بند نہ کرنا —
اگر تم نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی تو تم سزا کے مستحق ہو
گے۔

پھر انہیں الوداع کہنے کے لیے ان کے ساتھ نکلتے — اور
انہیں کہتے، میں نے تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کی امت کے بالوں اور ان کے چڑوں پر حاکم مقرر نہیں کیا۔ —
لہذا تم عربوں کو کوڑے مار کر ذلیل نہ کرو۔ — اور ان کو یکجا جمع
کر کے فتنے میں نہ ڈال دینا۔

-
- ۱۔ حتیٰ کہ تم ان کے بال نوچ لو اور ان کی چڑی ادھیڑو۔ ۱۲ فر فوز
 - ۲۔ انہیں کسی نہ کسی عاذ پر مصروف رکھنا، بیکار کیجا رہنے سے فتنے جنم لیں گے۔ ۱۲
- فروز

<http://t.me/Tehqiqat>

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

گورنر عراق

حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔۔۔۔۔ وہ اون کا لباس پہنتے اور جو کی روٹی کھاتے تھے۔۔۔۔۔ خوشحالی ان کی زندگی میں عمل دخل حاصل نہ کر سکی۔۔۔۔۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو رو پڑے۔۔۔۔۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟۔۔۔۔۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آخرت میں ایک گھاٹی ہے جسے وہی لوگ عبور کر سکیں گے جو گراں بار نہیں ہوں گے۔۔۔۔۔ میرے ارد گرد تو یہ ساز و سامان دکھائی دے رہا ہے۔

حاضرین نے جب ان کے سامان کا جائزہ لیا تو ان کے پاس ایک برتن، ایک ڈول اور ایک کوزے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔۔۔۔۔ اس کے باوجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف تھا کہ میرے پاس تو اتنا سامان موجود ہے۔۔۔۔۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو میرا نام بٹے پھلکے بوجھ والوں میں نہ لکھا جائے۔۔۔۔۔ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا سے بے نیازی۔۔۔۔۔ اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کی بنا پر اس گھاٹی کو طے کریں گے۔

یہ تھے مسلمان حکمران

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محص والوں کو لکھا کہ ہمیں اپنے ہاں کے فقراء اور محتاجوں کی فہرست ارسال کرو — تاکہ ان کے نام عطیات ارسال کئے جائیں — فہرست میں سب سے پہلا نام ان کے حکمران سعید بن عامر بھی لے کا تھا۔

جب فہرست پہنچی اور فاروق اعظم نے محص کے حاکم کا نام فقراء کی لسٹ میں سرفہرست دیکھا — تو دریافت کیا کہ ہم انہیں مناسب مقدار میں وظیفہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ فقیر اور محتاج کیوں ہیں؟

محص کے سفیروں نے کہا، جناب وہ واقعی فقیر اور نادار ہیں — کیونکہ وہ اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں — جو کچھ ہوتا ہے سارے کا سارا مسکینوں، فقیروں اور نادار عورتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں — پھر ان کے سامنے معذرت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ — جب امیر المؤمنین نے مجھے کہا کہ میں تمہیں گورنر مقرر کر رہا ہوں، تو میں نے کہا تھا، جناب مجھے مشقت میں نہ ڈالیں، لیکن وہ مانے ہی نہیں — حضرت عمر فاروق نے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم نے ان کو ضائع کر دیا — ہم نے ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا۔

حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، ان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ — شرکاء وفد نے بتایا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان کی چار عادتوں پر اعتراض ہے۔

(۱) — وہ ہمارے پاس دن چڑھے آتے ہیں۔

(۲) — رات کے وقت دکھائی نہیں دیتے۔

(۳) — مہینے میں ایک دن غائب رہتے ہیں۔

(۴) — کبھی کبھی انہیں بے ہوشی کے طویل دورے پڑتے ہیں۔

حضرت فاروق اعظم نے حمص کے فقراء کے لیے مناسب مقدار میں وظیفہ بھجوایا — چار سو دینار ان کے گورنر کے لیے بھجوائے اور انہیں قسم دی کہ یہ رقم اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر صرف کریں۔

جب حضرت سعید کے پاس مال پہنچا تو انہیں شدید صدمہ ہوا، جس کے آثار ان کے چہرے پر واضح طور پھر دکھائی دیتے تھے — نہایت

دل گرفتہ اور غمگین حالت میں اپنے گھر میں داخل ہوئے — ان کی

اہلیہ محترمہ نے پوچھا، کہ مجھے آپ غمزدہ اور پریشان دکھائی دیتے ہیں

— کیا آپ کا کوئی دوست فوت ہو گیا ہے؟ — حضرت سعید

نے کہا، کاش! ایسا ہوتا — انہوں نے پھر پوچھا — کیا شر

کا کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا ہے؟ — فرمایا، کاش! ایسا ہوتا

— اہلیہ نے پوچھا، پھر آپ کو کس بات کا صدمہ ہے؟

حضرت سعید نے گہرا سانس لیا، پھر کہنے لگے۔

مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف

حاصل ہوا، آپ کی صحبت بہترین صحبت اور آپ بہترین مصاحب تھے۔

پھر مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کی

سعادت میسر آئی — ان کی رفاقت بہترین رفاقت تھی اور وہ

بہترین ساتھی تھے — پھر میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا

مصاحب بنا۔۔۔۔۔ لیکن ان کی صحبت کچھ اچھی ثابت نہیں ہوئی۔
بیوی نے کہا 'وہ کیوں؟ دینار بیوی کے سامنے رکھتے ہوئے' ان پر
نفرت و حقارت سے بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے کہنے لگے۔۔۔۔۔ یہ دیکھو!
انہوں نے میرے پاس کیا بھیجا ہے؟ اور مجھے کیسی سخت تاکید کی ہے؟
بیوی نے کہا 'آپ کو ڈر کس کا ہے؟'۔۔۔۔۔ کہنے لگے 'مجھے
'صرف تمہارا ڈر ہے کہ کہیں تم پر ان چمکتے ہوئے سکوں کا جادو نہ چل
جائے'۔۔۔۔۔ تسلیم و رضا کی پیکر بیوی نے کہا 'میری طرف سے
اطمینان رکھئے! اور جو جی میں آئے' کر گزریئے!
فرط مسرت سے ان کا چہرہ جگمگا اٹھا اور مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پہ
کھینے لگی۔۔۔۔۔ کہنے لگے 'اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے
تم نے میری بڑی مشکل حل کر دی ہے ایسے کرو کہ کپڑے کا ایک
ٹکڑا لاؤ۔۔۔۔۔ اس اللہ کی بندی نے سارا کمرہ چھان ڈالا' لیکن اسے
کپڑے کا زائد ایک ٹکڑا نہ مل سکا۔۔۔۔۔ مجبوراً اس نے اپنی اوڑھنی
کا ایک کنارہ پھاڑ کر پیش کر دیا۔۔۔۔۔ حضرت سعید نے اس میں کچھ
دینار باندھے اور کہا 'کہ یہ فلاں کے گھردے آؤ۔۔۔۔۔ یہ دراہم اور
دینار فلاں کے گھردے آؤ۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی
نہ رہا۔۔۔۔۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی:
اے اللہ! اس کے بعد عمر فاروق کا کوئی عطیہ میرے پاس نہ آئے!
بیوی نے کہا 'آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟'۔۔۔۔۔ کیا وہ ہمیں
خراج اور غنیمت کے مال حلال سے نہیں بھیجتے؟'۔۔۔۔۔ کہنے لگے 'وہ
بھیجتے تو مال حلال ہی ہیں! لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فقراء مہاجرین، مالدار مہاجرین سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی قسم! مجھے دنیا اور اس کی تمام دولت بھی مل جائے تو میں اس بات پر راضی نہیں ہوں گا کہ مجھے پہلی جماعت میں شامل نہ کیا جائے۔

ملاقات ہونے پر حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ آپ ان چار عادتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ — جن کی اہل محض شکایت کرتے ہیں — کہنے لگے، 'امیر المؤمنین! انہوں نے جو کچھ کہا ہے، صحیح کہا ہے — ان کی وجوہ بھی سن لیجئے!

۱۔ میں چاشت کے وقت اس لیے گھر سے نکلتا ہوں کہ میرا کوئی خادم نہیں ہے، میری بیوی بیمار ہے — نماز فجر کے بعد میں اس کے کام کاج سرانجام دیتا ہوں، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا ہے۔

۲۔ رات کے وقت میں لوگوں سے اس لیے ملاقات نہیں کرتا کہ میں دن بھر لوگوں کی خدمات انجام دیتا ہوں — رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وقف کر رکھا ہے

۳۔ مہینے میں ایک دن میں اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے — اس دن میں اسے دھوتا ہوں اور خشک ہونے پر پہن لیتا ہوں، اس لیے لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔

۴۔ بیہوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خبیث بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے شہید کئے گئے، میں اس وقت کافر تھا — مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل پر چوٹ لگتی ہے — اور سینے سے ایک

ہوک سی اٹھتی ہے کہ کاش! میں اس وقت اسلام لا چکا ہوتا اور ان کے دفاع کی کوشش کرتا ————— امیر المؤمنین! جب بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے تو مجھ پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ————— اور میرے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں ————— یہ گفتگو سن کر فاروق اعظم اس شدت سے روئے کہ ان کی ہچکی بندھ گئی ————— حضرت سعید کے وصال کے بعد جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا تو فاروق اعظم پر شدید گریہ طاری ہو جاتا اور ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ————— حضرت فاروق اعظم نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو جمع کیا ————— اور انہیں کہا کہ اپنی اپنی آرزو بیان کیجئے! ————— ایک صحابی نے کہا 'میری آرزو ہے کہ میرے پاس ایک لشکر ہو جسے لے کر میں دشمنان اسلام سے جہاد کروں ————— دوسرے صحابی نے کہا 'میری آرزو یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو' جسے میں فی سبیل اللہ خرچ کر دوں ————— حضرت عمر فاروق نے فرمایا 'میری آرزو یہ ہے کہ سعید بن عامر عجمی ایسا کوئی گورنر ہو جسے میں مسلمانوں کے امور کا والی بنا دوں ————— یہ کہا اور اتنی شدت سے رو پڑے کہ بات کرنا مشکل ہو گئی ————— ساتھ ہی یہ کہہ رہے تھے رحمہ اللہ ————— رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔

تاریخ اسلام کے دور اول میں حکمرانوں کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے ————— وہ اپنے رب کریم کی خوشنودی اور بہترین اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ اور اسلامی مملکت کے لیے جان و مال کی قربانی دے دیتے تھے ————— اللہ تعالیٰ

ان سے راضی ہو اور انہیں بھی راضی کر دے۔

۱ حضرت سعید بن عامر بن عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ ان کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ۱۲ فرور

۲ یہ حدیث امام مسلم نے کتاب الزہد میں حضرت عمرو بن العاص کے حوالے سے ان الفاظ سے روایت کی ہے ان فقرا = المهاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الی الجنتہ باربعین خریفاً اس کے علاوہ دیکھئے الترغیب والترہیب ج ۴ ص ۱۳۶-۱۲ فرور

۳ حضرت خبیب بن عدی بن مالک انصاری اوسی بدر میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں شہید کئے گئے۔ زمین نے ان کی نعش مبارک کو نگل لیا۔ ان کا لقب بلع الارض ہوا۔ اصابعہ کسی قدر تصرف کے ساتھ۔ ۱۲ فرور

امام جعفر صادق کی اپنے بیٹے کو وصیت

اور

خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کو نصیحت

حضرت موسیٰ بن امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر تھے۔ امام نے انہیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

بیٹے! میری تنگ کو ذہن نشین کر لو۔ اور میری وصیت کو دل کی گہرائی میں جگہ دو۔ اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تم پیکر سعادت بن کر زندہ رہو گے، اور قابل ستائش حالت میں دنیا سے رخصت ہو گے۔

بیٹے! جو اپنی قسمت پر راضی ہو گا وہ غنی ہو جائے گا۔ جس کی حرصانہ نگاہیں دوسروں کے مال کی طرف اٹھیں گی وہ فقیرانہ حال میں دنیا سے کوچ کرے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا، اس نے اللہ کریم کے فیصلے پر کتہ چینی کی ہے۔ اور جو شخص دوسرے کی لغزش کو چھوٹا سمجھے گا، اس کی نظر میں اس کی اپنی غلطی نہایت سنگین ہو گی۔

بیٹے! جو شخص دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے، اس کے گھر کی چھپانے کے قابل چیزیں برہنہ ہو جائیں گی۔ جو شخص بغاوت کی تلوار میان سے باہر نکالے گا، اسی سے قتل کیا جائے گا۔ جو شخص اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا، خود اس میں گرے گا۔ جو شخص بے وقوفوں کے پاس

Click

بیٹھے گا، رسوا ہو جائے گا۔۔۔۔۔ جو شخص علماء کے پاس بیٹھے گا، وہ صاحب عزت و وقار ہو گا۔۔۔۔۔ جو شخص برائی کے راستوں میں داخل ہو گا، اس پر تہمت لگے گی۔

بیٹے! حق بات کو، چاہے تمہارے موافق ہو یا مخالف

چغلیخوری سے بچنا، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں دشمنی کا بیج بو دیتی ہے، بیٹے! اگر تم سخاوت کو تلاش کرو تو جو دو سخاکی کانوں کی طرف رجوع کرنا۔

ایک دن خلیفہ وقت ابو جعفر منصور نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج کر بلایا۔۔۔۔۔ جب آپ تشریف لائے تو اس نے کہا، میں آپ سے ایک مسئلے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام اہل مدینہ میرے ساتھ جنگ کرنے پر متفق ہیں، میں انہیں دوبار مہلت دے چکا ہوں۔۔۔۔۔ لیکن وہ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔۔۔۔۔ میں نے سوچا ہے کہ ایک ایسا لشکر بھیجوں جو ان کی کھجوروں کو کاٹ کر ایک جگہ دھیز کر دے، اور ان کے چشموں کو تباہ کر دے، آپ کی کیا رائے ہے؟۔۔۔۔۔ سیدنا جعفر صادق خاموش رہے، ابو جعفر منصور نے کہا، کیا بات ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟۔۔۔۔۔ امام نے فرمایا، امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو حکومت دی تو انہوں نے شکر ادا کیا۔۔۔۔۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، تو انہوں نے صبر کیا۔۔۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشے اور درگزر کرنے والوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔۔۔۔۔

ان کی اس گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ ابو جعفر کا غصہ ٹھنڈا پر گیا اور اس نے اہل
مدینہ کو سزا دینے کا فیصلہ منسوخ کر دیا ————— صرف یہی نہیں، بلکہ
امام جعفر صادق کا شکر یہ ادا کیا

امام جعفر صادق کی بدولت، اہل مدینہ آنے والی بہت بڑی مصیبت
سے بچ گئے ————— کیونکہ جب اخلاص سے معمور دل سے بات نکلے تو
اس کا اثر ہو کر رہتا ہے ————— سرکش نفوس اس کے آگے سرخم ہو
جاتے ہیں اور اس کی رہبری کو تسلیم کر لیتے ہیں۔

دور اول کے مسلمان سوچے سمجھے بغیر قدم نہیں اٹھاتے تھے
————— بلکہ دیانت دار علماء سے مشورے لیتے تھے
————— اس لیے ان کا ہر اقدام صحیح اعتماد اور بصیرت پر مبنی
ہوتا تھا ————— یہی وجہ تھی کہ انہیں توفیق کے ساتھ ساتھ
کامرانی نصیب ہوتی تھی ————— اور حکمرانوں اور عوام کے
درمیان مکمل موافقت اور ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔

۱۔ جعفر صادق، امام ابو عبد اللہ جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین علی
ابن امام حسین بن سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ————— ان کی والدہ
ماجدہ فرود بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ————— والد کی طرف
سے ان کا سلسلہ نسب ابو طالب، اور والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی وہ والد کی طرف سے طالبی اور والدہ کی طرف سے
بکری ہیں ————— ۵۸۰ء میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اڑسٹھ سال عمر پائی —————

— اور رعایا کو اس میں شامل نہ کریں — امیر المؤمنین چاہتے ہیں کہ نادار اور مفلوج افراد، عوام الناس سے ان کے مال و دولت اور خدا داد رزق سے سوال کریں — اور وہ ان کی حاجت روائی کر کے اجر و ثواب میں امیر المؤمنین کے ساتھ شریک ہوں — تاکہ غریبوں کی دستگیری، آخرت میں ان کے گناہوں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے۔

سفر نے ابو جعفر منصور کی گفتگو سنی تو اس نے تسلیم کیا کہ اصل بات یہی ہے — اور واقعی ابو جعفر منصور نے محتاجوں اور اباہوں کو لوگوں سے صدقات و خیرات کی بھیک مانگنے کی اجازت اس لیے دے رکھی ہے کہ عوام الناس بھی اس کارِ ثواب میں شریک ہو سکیں — سفر کو یہ محسوس بھی نہ ہو سکا کہ عمارہ بن حمزہ نے مال و دولت کی قلت کا عذر پیش کر کے جس کمزوری کا اظہار کر دیا تھا، ابو جعفر نے برجستہ جواب دے کر اس کا ازالہ کیا ہے — سفر نے کہا، امیر المؤمنین نے صحیح فرمایا ہے۔ تاریخ میں یہ جواب، 'عظیم'، 'مسکت جوابات میں سے شمار کیا گیا ہے

خلیفہ ابو جعفر منصور اپنے چھوٹے بھائی ابوالعباس سفاح کے بعد چالیس سال کی عمر میں ۱۳۶ھ میں خلیفہ بنا — تقریباً ۲۲ سال مسندِ خلافت پر فائز رہا — بغداد کی تعمیر کی، فوجی چھاؤٹی کے طور پر رصافہ نامی شہر آباد کیا — ۱۵۸ھ میں انتقال ہوا اس کے بعد مدی خلیفہ بنا (البدایہ والنہایہ ج ۱۰) شرف قادری

قاضی منذر بن سعید

ایک دن سلطان ناصر نے 'قرطبہ کے محل میں وفود سے ملاقات کے لیے مجلس خاص کا اہتمام کیا۔۔۔۔۔ جب اعیان سلطنت اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو مختلف ممالک کے وفود کی آمد شروع ہوئی۔۔۔۔۔ سلطان کی خواہش تھی کہ محفل کے آغاز میں خطباء اور شعراء کھڑے ہو کر اس کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کریں۔

سلطان کے ولی عہد حکم نے پہلے سے خطباء کو تیار کیا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اس نے سب سے پہلے سلطان کے مہمان ابو علی قالی بغدادی کا اعلان کیا۔۔۔۔۔ ابو علی نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی 'نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا۔۔۔۔۔ دربار شاہی کے رعب و دبدبے کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ مزید ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکا' اور بیٹھ گیا

اس مجلس میں اپنے دور کے عظیم عالم اور فصیح و بلیغ خطیب منذر بن سعید بھی تشریف فرما تھے۔۔۔۔۔ وہ از خود کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ابو علی کے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے خطابت کا وہ جادو جگایا۔۔۔۔۔ سننے والوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں اور ہوش و حواس مبہوت ہو گئے۔۔۔۔۔ جب محفل برخاست ہوئی تو لوگوں کی زبانوں پر ان ہی کی بلاغت 'جادو بیانی اور حکمت و دانش کا تذکرہ تھا۔۔۔۔۔ سلطان ناصر

سب سے زیادہ متاثر اور خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے حکم سے منذر کے بارے میں دریافت کیا، کہ یہ کون ہیں؟ سلطان پہلے انہیں نہیں جانتا تھا۔ حکم نے بتایا، یہ منذر بن سعید ہیں۔ سلطان نے کہا، انہوں نے اپنا مافی الضمیر بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے۔ سلطان نے انہیں قرب خاص سے نوازا، پہلے انہیں قصر زہراء کی جامع مسجد کا امام اور خطیب مقرر کیا۔ پھر قرطبہ کا قاضی بنا دیا۔

قاضی منذر بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ احکام الہیہ پر سختی سے کاربند تھے۔ حق اور عدل و انصاف کے قائم کرنے، ظلم اور باطل کے خاتمے کے لیے پیش پیش رہتے۔ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ انہیں کلمہ حق کہنے سے کسی کی ملامت روک نہیں سکتی تھی۔

سلطان ناصر کے منہ پر کسی خوف اور خطرے کے بغیر، بر ملا نصیحت اور تنبیہ آمیز باتیں کہہ دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے کئی واقعات مشہور و معروف ہیں۔ ایک واقعہ آپ بھی چشم حیرت سے پڑھیے۔ سلطان ناصر کو تعمیرات کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ ایسی پر شکوہ عمارتیں تعمیر کرنا چاہتا تھا جو رہتی دنیا تک اس کی شاہی شان و شوکت اور بلند ہمتی کی یادگار رہیں۔ جب اس نے قصر زہراء تعمیر کروایا تو اس کا دور دور تک چرچا ہوا۔ اس نے محلات کی مضبوطی اور مکانوں کی آرائش و زیبائش پر تمام تر توانائی صرف کر دی۔ عمارات کی چنگلی اور زیب و زینت پر اتنی بھرپور توجہ دی کہ مسلسل تین

جمعے، جامع مسجد میں ادا نہ کر سکا۔

چوتھے جمعہ کو جامع مسجد میں پہنچا تو قاضی منذر نے سلطان کو وعظ و نصیحت اور تنبیہ کرنے کا فیصلہ کیا ————— چنانچہ انہوں نے خطبے کا آغاز کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔

أَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ۝
وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو، راہ گیروں سے ہنسنے کو
———— اور مضبوط محل چنتے ہو، اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو
گے ————— اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے
دردی سے گرفت کرتے ہو، ————— تو اللہ سے ڈرو اور میرا
حکم مانو ————— (کنز الایمان) ۱

پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی:

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ
سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا
يَظْهَرُونَ ۝

اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی دین پر ہو جائیں
———— تو ہم ضرور رحمن کے منکروں کے گھروں کے لیے
چاندی کی چھتیں اور میڑھیاں بناتے ————— جن پر وہ چڑھتے۔

پھر ارشاد ربانی کی تلاوت کی:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ
خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى

تم فرما دو، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے — اور
آخرت پرہیزگاروں کے لیے اچھی ہے۔

آخرت ہی ہمیشہ رہنے اور جزا کی جگہ ہے — پھر انہوں
نے زور دار گفتگو اور دل نشین پیرائے میں پختہ عمارتیں بنانے اور ان کی
ڈیکوریشن پر فضول خرچی کی شدید مذمت کی — موقع کی مناسبت
سے موت کا ڈر سنایا — نفسانی لذتوں اور خواہشوں سے اعراض
اور دنیا سے بے نیازی کی رغبت دلائی — اور موضوع کی تائید و
تقویت کے لیے احادیث اور آثار کا حوالہ دیا — ان کی پرسوز
گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ لوگ خوف اور خشیت کے غلبے کی بنا پر زار و قطار
رونے لگے — اور اعلانیہ توبہ استغفار کرنے لگے — سب
سے زیادہ سلطان ناصر پر خشیت طاری ہوئی اور وہ بلک بلک کر رونے لگا
— اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ دراصل مجھے ہی نصیحت کرنا
مقصود ہے — وہ اپنی جانب سے افراط و تفریط کے صادر ہونے پر
نادم تو ہوا — لیکن قاضی منذر کے سرزنش کرنے پر غضبناک بھی
ہو گیا۔

تنہائی میں اپنے بیٹے حکم کے سامنے اظہار خیال کرتے ہوئے کہنے لگا
— منذر نے جان بوجھ کر اپنے خطبے میں مجھے اور صرف مجھے نشانہ
بنایا ہے — اس نے بھرے مجمع میں مجھے زبرد تو بیخ کا ہدف بنانے

میں حد سے تجاوز کیا ہے ————— پھر قسم کھا کر کہنے لگا، کہ میں اس کے پیچھے کبھی جمعہ نہیں پڑھوں گا ————— چنانچہ اس نے قصر زہراء میں جمعہ پڑھنا ترک کر دیا ————— قرطبہ میں احمد بن مطرف کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔

سلطان کے بیٹے حکم نے کہا، جب قاضی منذر آپ کو پسند نہیں ہے تو اسے مصلائے امامت سے برطرف کر کے اس کی جگہ کسی دوسرے امام کو کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ ————— سلطان نے اسے سخت ڈانٹ پلائی اور کہا، تیری ماں نہ رہے! ————— کیا میانہ روی سے بھگنے والے اور راہ ہدایت سے برگشتہ ہونے والے نفس کو راضی کرنے کے لیے منذر بن سعید جیسے صاحب علم و فضل اور پیکر خیر و تقویٰ کو معزول کیا جا سکتا ہے؟ ————— مجھے شرم آتی ہے کہ میں نماز جمعہ میں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان منذر جیسے مجسمہ صداقت و پرہیزگاری کو اپنا سفارشی نہیں بناتا ————— لیکن کیا کروں؟ اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، تو میں قسم کھا بیٹھا ————— کاش، کوئی صورت ہوتی تو میں اپنی حکومت قربان کر کے قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ————— انشاء اللہ! جب تک ہماری اور ان کی زندگی ہے وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے ————— میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کبھی ان سے بہتر خطیب بھی مل سکتا ہے۔

یہ تھی مسلمان سلاطین اور امراء کی عادت کریمہ ————— جب ان سے خطا سرزد ہو جاتی اور کوئی عالم یا خطیب انہیں نصیحت کرتا ————— تو وہ خواہش نفس اور گمراہی سے رجوع کر لیتے ————— حق کے آگے سر تسلیم و رضا خم کر

دیتے — اور انہیں جو نصیحت کی جاتی تھی اسے برا نہیں
ماتے تھے۔

صرف قرطبہ میں ۵۹۷۰ میں نادار افراد کو مفت تعلیم دینے کے لیے
خود مختار مدارس کی تعداد ستائیس سے زیادہ تھی — جہاں غریب
طلباء کو داخلہ دیا جاتا، اور ان کی تعلیم و تربیت اور دیگر ضروریات کا مفت
انتظام کیا جاتا تھا۔

(معجم الادباء، کسی قدر تصرف کے ساتھ)

۱ القرآن، سورۃ الشعراء ۲۶، ۱۲۹

۲ القرآن، سورۃ الزخرف ۲۳، ۳۳

۳ القرآن، سورۃ النساء ۴، ۷۷

تاریخ اسلام کی مایہ ناز خاتون

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے دمشق کا شدید محاصرہ کیا ————— رومی اس محاصرے کی سختی سے زچ ہو کر رہ گئے ————— دمشق کا سربراہ شاہ روم، ہرقل کا خسر توما تھا ————— وہ شہر کے ایک دروازے باب توما پر آیا، اس نے بڑے بڑے جرنیلوں اور حواریوں کو اکٹھا کیا ————— انجیل لا کر صلیب کے پاس لٹکا دی ————— اور گڑگڑا کر اپنے رب سے دعا مانگی کہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔

تو ما نے قلعے سے باہر نکل کر خوفناک حملہ کیا ————— مسلمانوں پر پتھروں اور تیروں کی بارش کر دی ————— ان کی آنکھوں، گردنوں اور سینوں کو نشانہ بنایا ————— اس کارروائی میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا اور زخمی کر دیا ————— زخمیوں میں مشہور صحابی، حضرت ابان بن سہد بن عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ————— انہیں ایک تیر نے گھائل کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شہادت کا مرتبہ عظمیٰ پا گئے۔

ان کی نئی نئی شادی چچا زاد خاتون سے ہوئی تھی ————— جس کے ہاتھوں سے ابھی ہندی کا رنگ اور سر سے عطر کی خوشبو بھی زائل نہیں ہوئی تھی ————— وہ خاتون بڑی دلیر، غیرت مند اور فصیح و بلیغ تھیں ————— انہیں جب اپنے محبوب شوہر کی شہادت کی اطلاع ملی تو صدمے سے بے ہوش ہو گئیں ————— لڑکھڑاتے قدموں سے تیز تیز چلتی

ہوئی، خون شہادت میں نہائی ہوئی، شوہر کی میت کے پاس پہنچیں
اور ان کے سر کے پاس کھڑی ہو کر کریناک نگاہوں سے انہیں
دیکھا، لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں کیا کہتیں ہیں؟ لیکن انہوں نے
حیرت انگیز صبر کا مظاہرہ کیا اور کمال ہمت سے صدمے کو برداشت کیا
حاضرین کے کانوں تک ان کے صرف کلمات ہی پہنچ سکے
انہوں نے اپنے شہید شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

تمہیں مرتبہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مبارک ہو!
تمہیں جو بلند ترین اعزاز دیا گیا ہے، اس پر میں تمہیں ہدیہ تمنیت
پیش کرتی ہوں۔ جس رب کریم نے ہمیں یکجا کیا، پھر
ہمارے درمیان فراق کی دیوار کھڑی کر دی، تم اسی کی بارگاہ میں
حاضر ہو چکے ہو۔ میں تمہاری ملاقات کی حسرت رکھتی
ہوں اور تم تک پہنچنے کے لیے پوری توانائی صرف کر دوں گی
تمہارے بعد مجھ پر حرام ہے کہ کسی دوسرے مرد کو
چھونے کی اجازت بھی دوں۔ میں نے تم تک پہنچنے کے
لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا ہے
اور مجھے امید ہے کہ میں جلد اپنے مقصد میں سرخرو
ہوں گی۔

پھر اسی جگہ ان کی قبر تیار کی گئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں سپرد لحد کر دیا گیا۔ دفن
کرنے کے بعد وہ جاں باز خاتون قبر پر نہیں ٹھہریں۔ بلکہ ہتھیار
سنبھالے اور جا کر مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئیں۔ حضرت

خالد بن ولید کو بھی اطلاع نہیں دی، کہیں وہ روک نہ دیں ———
لوگوں سے پوچھا، میرے شوہر کس دروازے پر شہید کئے گئے تھے؟
انہیں بتایا گیا کہ بابِ توما پر، وہ سیدھی اس دروازے پر پہنچیں
اور میدانِ جنگ میں دادِ شجاعت دینے والوں میں شامل ہو گئیں
انہوں نے شدید حملہ کیا اور ایسی ہولناک جنگ لڑی، جس کی مثال
دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی تھی ——— وہ تیر اندازی میں بے مثال
مہارت رکھتی تھیں ——— ان کے پاس مضبوط کمان بھی تھی اور تیروں
سے بھرا ہوا ترکش بھی تھا ——— انہوں نے صلیب بردار کو تیر مارا جو
سیدھا جا کر اس کی کلائی میں پیوست ہو گیا ——— جواہر و یواہیت سے
مرصع کی ہوئی صلیب، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔
یہ صورت حال دیکھ کر توما غم سے پاگل ہو گیا اس نے اپنی پٹی کسی
تکوار میان سے باہر نکالی اور لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا،
دربان کو حکم دیا ——— دروازہ کھول دو ——— اور خود ٹڈی دل
لشکر کی قیادت کرتا ہوا، قلعے سے باہر نکل آیا ——— عیسائیوں نے
مسلمان مجاہدین پر پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی ——— تومانیے
صلیب واپس لینے کے لیے حضرت شرحبیل پر حملہ کر دیا ———
حضرت ابان کی اہلیہ محترمہ نے اسے حملہ کرتے ہوئے دیکھا ——— تو
خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہ
پہنچا دے ——— انہوں نے نشانہ لے کر تیر مارا جس سے اس کی
دائیں آنکھ پھوٹ گئی ——— اور تیر اس کی آنکھ میں گرا پیوست ہو
گیا ——— وہ چیخ اٹھا، ہائے مر گیا اور چلاتا ہوا اٹھے پاؤں بھاگ کھڑا

ہوا — اس شیردل خاتون کا تو ارادہ تھا کہ ایک اور تیرمار کر اسے
جنم رسید کر دیں — لیکن رومیوں نے انہیں موت کے گھاٹ
اتارنے کے لیے حملہ کر دیا — مسلمان مجاہدین نے انہیں فوراً اپنے
حصار میں لے لیا۔

جب وہ خطرے کی حدود سے باہر آئیں تو پھر دشمنوں پر تیر برسانے
لگیں — ان کا نشانہ اس غضب کا تھا کہ کوئی تیر زمین پر نہیں گرتا
تھا — اسی اثناء میں انہوں نے ایک رومی سپہ سالار کو دیکھا،
علامات کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے لشکر کا کمانڈر ہے
— وہ سب عیسائیوں سے آگے آگے تھا، اس پیکر شجاعت خاتون
نے تاک کر اسے تیر مارا جو اس کے سینے کے آر پار ہو گیا — اور
وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر گیا اور مسلمان مجاہدین نے بھرپور
حملہ کر دیا — نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن بری طری شکست کھا کر بھاگ
گیا — اور باب توما کے پاس جا کر پناہ لی۔

توما ذلیل و خوار ہو کر دمشق میں داخل ہوا اور قلعے کے دروازے
بند کر لئے — عیسائی طبیبوں نے توما کی آنکھ سے تیر نکالنے کی سر
توڑ کوشش کی، مگر ناکام رہے — آخر تھک ہار کر بیرونی حصہ کاٹ
دیا اور باقی آنکھ ہی میں پیوست رہنے دیا — مجاہدین اسلام کی بیعت
نے رومی عیسائیوں کے دلوں کی شریانوں کو کاٹ کر رکھ دیا —
ان کے لیڈروں نے انہیں جنگ پر بہت اکسایا — لیکن وہ کسی طرح
بھی میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار نہ ہوئے — انہوں نے
لرزتے کانپتے دلوں کے ساتھ بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے رہنے میں ہی

عافیت سمجھی

یہ ہے تاریخ اسلام کے دور اول کی جواں سال خاتون
_____ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
عظیم درسگاہ میں تعلیم حاصل کی _____ آپ کی تعلیمات پر
عمل کیا اور دانش کدہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیم و تربیت کا نتیجہ، شاندار اسلامی فتح کی صورت میں دکھا دیا
_____ ایسی شعلہ جوالہ اور پیکر حریت خاتون کے بیٹوں کا حق
ہے کہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں _____ ایسی با غیرت و حمیت
ماؤں کے نگہوں سے جنم لینے والے سپوتوں ہی کا کام ہے
_____ کہ وہ ظالم و جابر حکمرانوں کے تختوں کی بنیادیں ہلا دیں
_____ اور زندہ جاوید ہو جائیں۔

قومی ذر رکھنے والا قائد

امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم نے انعامات حاصل کرنے کے لیے صحراؤں کو عبور نہیں کیا — اور نہ ہی اس مقصد کے لیے صبح و شام سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں — میں جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، ان کی ضروریات کے علاوہ میری کوئی ذاتی ضرورت نہیں ہے۔

یہ تھے وہ کلمات جو احنف بن قیس تمہیں نے اس وقت کہے — جب وہ اپنے ساتھیوں، جرنیلوں اور خاص طور پر بصرہ کے باشندوں کے ایک وفد کے ہمراہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے — اور فاروق اعظم نے ان کی جرأت، صاف گوئی اور فصیح گفتگو سے متاثر ہو کر انہیں انعام دینے کا حکم دیا۔

پھر وفد سے پوچھا، کہ تمہارے کچھ مطالبات ہوں تو بتاؤ؟ — انہوں نے کہا کہ عوام الناس کی ضروریات کا تو آپ خود انتظام فرمائیں گے — ہمارے کچھ خصوصی مطالبات ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان پر غور فرمائیں — حضرت عمر فاروق نے ان کے مطالبات پورے کر دیئے — احنف بن قیس سب سے آخر میں بیٹھے تھے — حضرت فاروق اعظم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا — کہ تمہارا کوئی کام ہو تو بتاؤ — انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کہا:

امیر المؤمنین! مصر کے مجاہدین، فرعون اور اس کے ساتھیوں کی

منزلوں میں قیام پذیر ہیں ————— یعنی مصر کے پھل کھاتے ہیں اور دریائے نیل کے پانی سیراب ہوتے ہیں۔

شام کے فاتحین قیصر کے محلات میں رہائش اختیار کر چکے ہیں ————— یعنی ملک شام کی خیرات و برکات اور اس کے میٹھے پانیوں سے متمتع ہو رہے ہیں۔

اہل ایران اور اہل کوفہ یعنی بنو تمیم و غیر ہم ————— کسری کے محلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں ————— اور نہروں کے میٹھے پانیوں سے شاد کام ہو رہے ہیں۔

لیکن اہل بصرہ یعنی میری قوم بنو تمیم کے مجاہدین 'اہواز میں مصروف جہاد ہیں ————— وہ ایسے ناخوشگوار علاقے میں ہیں جہاں کی مٹی خشک نہیں ہوتی ————— چراگاہوں میں گھاس کا نام و نشان نہیں ہے ————— اس کا ایک کنارہ سمندر سے ملتا ہے تو دوسرا کنارہ صحراء میں ہے ————— انہوں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا۔

حضرت عمر فاروق نے وفد کے باقی افراد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا 'تم نے ان جیسا بننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ————— اللہ تعالیٰ کی قسم! یہ واقعی قائد ہیں ————— فاروق اعظم کو ان کے زور بیان، اخلاص اور سلامت فکر سے حیرت آمیز مسرت حاصل ہوئی ————— تب انہوں نے اس انعام کی پیشکش کی جس کا ذکر ابتدا میں کیا گیا ہے ————— لیکن احنف نے معذرت کے ساتھ اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ————— اور کہا 'اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم نے اس مقصد کے لیے لقمہ ووق صحراء طے نہیں کئے۔

حضرت فاروق اعظم کے دل میں ان کی قدر و منزلت بے انتہا زیادہ ہو گئی۔۔۔۔۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شخص بہترین صلاحیتوں کا مالک ہے اور مستقبل میں یہ بلند ترین مقام پر فائز ہو گا۔۔۔۔۔ آئندہ واقعات نے ان کی فراست کے فیصلے پر ہر تصدیق مثبت کر دی۔۔۔۔۔ اور احنف بن قیس نے خراسان وغیرہ بڑے بڑے شہر فتح کئے۔

جس طرح احنف نے فاروق اعظم کا انعام قبول نہیں کیا۔۔۔۔۔ اسی طرح بلخستان کی فتح کے موقع پر پیش کئے جانے والے عظیم تحائف بھی ٹھکرا دیئے۔۔۔۔۔ ان کی خدمت میں بڑی مقدار میں سونے چاندی کے برتن، کپڑے اور ساز و سامان پیش کیا گیا۔۔۔۔۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ ڈھیروں کے حساب سے مال کیوں لائے ہو؟

تحائف پیش کرنے والوں نے بتایا کہ یہ ہمارا معمول ہے۔۔۔۔۔ ہم عید کے مواقع پر اپنے حکمرانوں کو اس قسم کی تحفے تحائف پیش کیا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرت احنف نے کہا، ہمیں تم سے صرف جزیہ لینے کا حق ہے، اور وہ ہم نے وصول کر لیا ہے۔۔۔۔۔ پر زور اصرار کے باوجود کچھ بھی لینے پر تیار نہ ہوئے، اور سب تحفے واپس کر دیئے۔

حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ ۸۷ھ میں بصرہ میں راہی دار بقاء ہوئے۔۔۔۔۔ بصرے کے تمام باشندے اپنے محبوب قائد کے جنازے کے ساتھ روانہ ہوئے۔۔۔۔۔ امیر بصرہ گلے میں تلواریں جامل کئے ہوئے، چادر اوڑھے بغیر، آگے آگے چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔۔۔۔۔ آج ہم سے حزم و احتیاط اور دانش و فکر کا پیکر رخصت ہو گیا۔

میرے اہل و عیال اللہ تعالیٰ کے سپرد

یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انسانی نفوس کے مقاصد متعین کرنے میں تعلیم و تربیت کا بڑا حصہ ہے ————— یہ تربیت ہی ہے جو انہیں صحیح راستے پر گامزن کرتی ہے ————— اور ان کی کج روی کو دور کر کے انہیں صراطِ مستقیم پر چلاتی ہے ————— ان کی ذوات میں ودیعت کئے گئے بہترین اخلاق کی بدولت ان کا روشن مستقبل مزید تابناک ہو جاتا ہے ————— اور ان سے مسرت بخش پھلوں کے جوڑے حاصل ہوتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے ————— اس وقت ان کی ملکیت میں یمامہ کے علاقے میں سہلہ نامی گاؤں تھا ————— وہاں سے وافر مقدار میں غلہ ان کے پاس آتا تھا ————— جس سے وہ اپنے اہل و عیال سمیت خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔

ملت اسلامیہ کے اکثر حکمرانوں کی روایت یہ رہی ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد ————— پہلے کی نسبت ان کا انداز زندگی بدل جاتا ہے ————— مثلاً! حکومت میں آنے سے پہلے وہ ایثار و قربانی کی شاندار مثال ہوتے ہیں ————— امت مسلمہ اور اپنے وطن کی خدمت کے لیے چوڑے دعوے کرتے ہیں ————— مگر جو نہی کرسی اقتدار میسر آتی ہے ایثار و قربانی مستعدی اور عوامی بھلائی کے تمام وعدے بھول جاتے ہیں۔

لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود حکمرانوں کے برعکس تبدیلی آئی ————— جب وہ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو ان

میں ایک نفسیاتی انقلاب برپا ہو گیا۔۔۔۔۔ جس نے ان کی سابقہ زندگی کا دھارا بدل دیا۔۔۔۔۔ پہلے جس دولت و راحت، خوشحالی اور اپنی ذات کی محبت کے اسیر تھے، اسے یکسر خیر باد کہہ دیا۔۔۔۔۔ اب انہوں نے امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ خوشحالی فراہم کرنے، اور اسے نقصانات سے بچانے کے لیے محنت و مشقت، اور شب بیداری کو اپنا نصب العین بنا لیا۔۔۔۔۔ اس سلسلے میں انہوں نے راحت و لذت اور تمام ذاتی خواہشات کو قربان کر دیا۔

انہوں نے اپنی ذات سے انقلاب کا آغاز کیا۔۔۔۔۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے سہلہ نامی گاؤں، مسلمانوں کے بیت المال کو واپس کر دینا چاہیے۔۔۔۔۔ انہوں نے سوچا کہ میں لوگوں کو انصاف کرنے، ظلم کے خاتمے، اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے کوشش کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہوں؟۔۔۔۔۔ جب کہ میرے پاس ایک ناجائز گاؤں ہے، جو مجھے پہلوں سے وراثت میں ملا ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! میرا دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو گا جب تک کہ میں اسے اپنے اوپر نافذ نہیں کروں گا۔۔۔۔۔ امت مسلمہ حکمرانوں کی تقریروں کو نہیں دیکھتی، بلکہ ان کے کردار اور کردار کے نتائج کو دیکھتی ہے۔

اس لیے انہوں نے حتیٰ فیصلہ کیا کہ سہلہ نامی گاؤں بیت المال کو واپس کر دینا چاہیے۔۔۔۔۔ تاکہ اس سے مسلمان فقراء اور عوام کو فائدہ ہو۔۔۔۔۔ چاہے اس کے نتیجے میں حوصلہ شکن فقر و فاقہ اور معاشی تنگی کا ہی سامنا کرنا پڑے۔

اس سلسلے میں انہوں نے خوب اچھی طرح غور کیا، یہاں تک

کہ واضح نتیجے تک پہنچ گئے، پختہ عزم کر لیا — اپنے آزاد کردہ غلام
مزاحم کو بلایا اور اسے کہا کہ میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا ہے، میں
چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی بتا دو — ابھی تک میں نے کسی سے اس کا
تذکرہ نہیں کیا — اس نے پوچھا وہ کیا فیصلہ ہے؟ — آپ
نے فرمایا

سہلہ نامی گاؤں کو تم جانتے ہی ہو میں نے طے کر لیا ہے

— کہ اسے مسلمانوں کے بیت المال کے سپرد کر دوں۔

تمہاری رائے کیا ہے؟ — مزاحم نے دہشت و حیرت اور غم

والم کی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا — اور دل میں سوچا کہ

حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کے اہل و عیال کا ذریعہ معاش تو سہلہ ہی

ہے — اسے یہ کیسے واپس کریں گے؟ — وہ کچھ دیر تو

خاموش رہ کر سوچتا رہا کہ کیا جواب دے؟ — اس کی ہمت نہیں

پڑتی تھی کہ وہ صاف صاف لفظوں میں دل کی بات زبان پر لے آئے۔

تاہم اس نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا — کیا آپ کو علم ہے

کہ آپ کے اہل و عیال اور کنبے کے افراد کتنے ہیں؟ — اس نے

ایک ایک کر کے چھوٹے بڑے تمام افراد گنوا دئے — وہ انہیں

بتانا چاہتا تھا کہ آپ نے جو عزم کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ —

اب وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جواب سننا چاہتا تھا — اس کا

خیال تھا کہ میں نے بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر کر کے، ان کی شفقت اور شعور

کے دروازے پر دستک دیدی ہے — لہذا، اولاد کی شفقت اور

محبت کی بنا پر اپنے فیصلے پر ضرور نظر ثانی کریں گے۔

لیکن اس نے چشم حیرت سے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں، جنہیں وہ اپنی انگلیوں سے پونچھ رہے ہیں۔ اور نہایت دھیمی آواز میں چند کلمات کہہ رہے ہیں۔ تاریخ نے وہ کلمات اپنے صفحات میں سنہرے حروف میں محفوظ کر دیئے ہیں۔ اور وہ صحیح ایثار و قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ وہ سوز و گداز میں ڈوبے ہوئے تین بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے

میں انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں

میں انہیں اللہ تعالیٰ کو سونپتا ہوں

مزاحم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گفتگو سن کر حیرت و تعجب میں ڈوب گیا، اس نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ — معاً اسے خیال آیا کہ مجھے اس معاملے کی خبر ان کے بیٹوں کو دینی چاہیے۔ وہ ان کے ارادے کے آگے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔

چنانچہ وہ بعجلت تمام ان کے بیٹے عبدالملک کے پاس گیا۔

اور اسے جا کر کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی نے آج کیا فیصلہ کیا ہے؟ — اس نے کہا، مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے۔ — کہنے لگا، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری روزی اور معیشت کا سرچشمہ سہلہ، مسلمانوں کے بیت المال کے سپرد کر دیں۔ — وہ اپنے اس عزم پر مصر رہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا، تو تمہارے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔

عبدالملک نے پوچھا، کہ جب انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا، میرا کیا پوچھتے ہو؟ — واللہ! میں نے انہیں

اہل و عیال اور خویش و اقارب میں سے ایک ایک کی یاد دلائی ——— تاکہ چھوٹے بڑے افراد، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، ان کے دل میں محبت و شفقت اور پدرانہ گداز موجزن ہو جائے ——— عبد الملک نے پوچھا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ ——— کہنے لگا، کچھ نہ پوچھیے! میں نے ان کی طرف دیکھا، تو ان کی آنکھوں سے اشکوں کی جھری لگی ہوئی تھی ——— وہ اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے اور پست آواز سے کہہ رہے تھے۔

اَكْبَهُمُ اِلَى اللّٰهِ

اَكْبَهُمُ اِلَى اللّٰهِ

میں انہیں کائنات کے پالتار کے سپرد کرتا ہوں

میں انہیں اپنے رب کریم کے حوالے کرتا ہوں

فرط غضب سے عبد الملک کا چہرہ سرخ ہو گیا ——— غصے سے بے

قابو ہوتے ہوئے کہنے لگا، تو دین کا برا وزیر ہے، تو بہت ہی برا دینی وزیر ہے۔

پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے، اپنے عظیم والد

کی طرف روانہ ہو گیا ——— جاتے ہی دربان کو کہنے لگا، مجھے انتہائی

ضروری کام ہے، لہذا! والد گرامی سے میرے لیے حاضری کی اجازت لو

———— دربان نے کہا، جناب! وہ بری طرح تھکے ہوئے ہیں، اور ابھی

ابھی دوپہر کے آرام کے لیے لیٹے ہیں ——— عبد الملک نے اصرار کیا کہ

میں اسی وقت ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے فوری طور پر اجازت طلب کرو

———— دربان کو غصہ تو بہت آیا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ عمر بن عبد العزیز

تھکاوٹ کے ہاتھوں نڈھال ہیں ——— اور اس وقت انہیں آرام کی

سخت ضرورت ہے ——— تاہم، اس نے غصے پر قابو پانے ہوئے ملایمیت

سے کہا، آپ لوگوں کو ان پر کچھ ترس نہیں آتا؟ — آپ کے والد ماجد معمولی استراحت کے لیے دن رات میں صرف اس گھڑی ہلکی سی نیند لیتے ہیں — اور آپ ہیں کہ انہیں اس وقت بھی آرام نہیں کرنے دیتے — عبد الملک کا پارہ چڑھ گیا، اس نے ڈانٹتے ہوئے بلند آواز سے کہا، 'تمہاری ماں نہ رہے! جاؤ، جا کر میرے لیے اجازت حاصل کرو —' دربان نے بھی تندی دکھائی، حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان کی آوازوں کا شور سنا تو اندر سے آواز دی، عبد الملک کو آنے دو۔

عبد الملک بڑے پرسکون انداز میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوا — اور مؤدبانہ سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، ابا جان! آج آپ نے کیا عزم کیا ہے؟ — حضرت عمر نے فرمایا، بیٹے! میرا ارادہ یہ ہے کہ سہلہ مسلمانوں کے بیت المال کو واپس کر دوں — ان کا خیال تھا کہ میرا بیٹا اس فیصلے کے خلاف بات کرنے آیا ہے، جو بہت سے وارثوں کے مفادات سے میل نہیں کھاتا — مگر عبد الملک نے بعجلت تمام کہا، ابا جان! ہرگز تاخیر نہ کیجئے، اور اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنا دیجئے! — ابھی اٹھئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو کچھ القاء کیا ہے، اس کا اعلان کر دیجئے — کیونکہ آپ کے الہامی عزم میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے بیٹے کے پاکیزہ کلمات سنے — تو فرط مسرت سے ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ پڑے — انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ سے ہدیہٴ تشکر پیش کیا

بے حد و حساب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے ایسی اولاد

عطا فرمائی جو دینی معاملات — اور مسلمانوں کے مفادات میں
میری معاون و مددگار ہے۔

بیٹے! تم نے صحیح کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہر مصیبت
سے محفوظ رکھے — میں نماز ظہر پڑھ کر بر سر منبر مسہلہ کے واپس
کرنے کا اعلان کروں گا، تاکہ خلیفہ کا یہ عمل دوسروں کے لیے بہترین راہنما
ثابت ہو، اور وہ بھی اس کے مطابق عمل پیرا ہوں — عبد الملک نے
کہا، ابا جان! زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ
نماز ظہر تک زندہ رہیں گے؟ — اور اگر آپ زندہ بھی رہے تو اس
بات کی کیا ضمانت ہے کہ ظہر تک آپ کی نیت برقرار رہے گی؟ — اور
آپ تردد کا شکار ہو کر اپنا فیصلہ منسوخ نہیں کر دیں گے؟

حضرت عمر کے جذبات تشکر کی طرح فرحت و انبساط کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ
تھا — انہیں ایسی روحانی سعادت کا احساس ہوا جس کا مقابلہ کوئی
سعادت نہیں کر سکتی — انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ جنت الفردوس
میں محو خرام ہوں۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر پڑھ کر منبر پر
تشریف فرما ہوئے — اور عوام و خواص کے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے
فرمایا — تم سب گواہ ہو جاؤ! میرے پاس جو مسہلہ تھا، میں نے وہ
مسلمانوں کے بیت المال کو واپس کیا — میں الہام فرمانے والے رب
کریم جل شانہ کا شکر بے پایاں ادا کرتا ہوں، کہ اس نے مجھے ایسی طیب و طاہر
اولاد عطا کی ہے جو دینی امور اور عامۃ المسلمین کے مفادات میں میرے دست
و بازو ہیں۔

یہ تھی اسلامی تربیت جو بچوں کے دلوں میں فضیلت اور ایثار و قربانی کی
تعمیر کرتی تھی۔ چنانچہ جب بچے جوان ہوتے تھے تو وہ اوصاف
حمیدہ اور نیکی کی محبت کے پیکر بن جاتے تھے۔ وہ سخت ترین احتیاج
اور ناداری کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔
اگرچہ انہیں تنگ دستی اور فقر و قاعدہ سے واسطہ پڑتا، تاہم وہ اپنے والد اور
رشتے داروں کو ایثار و قربانی کی تلقین کرتے تھے۔ اور ان کا مقصد
زندگی اور عزم صرف اور صرف 'ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود ہوتا تھا۔

الحمد للہ آج بروز پیر

۲۵ محرم ۱۴۱۳ھ

۲۷ جولائی ۱۹۹۲ء

کو من نفعات الخلود کا ترجمہ مکمل ہوا

<http://t.me/Tehqiqat>

(ضمیمہ از مترجم)

اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے

کی سربلندی

تواضع زگردن فرازاں نکوست

جن دنوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے ————— ایک شخص ملک شام سے آیا، اس کے پاس ڈھیر سا مال تھا ————— اس کی نظر حضرت سلمان پر پڑی ————— بھاری جسم، دراز قد، طاقتور اور مہنتی ————— اس نے سوچا کہ یہ قلی ہے ————— انہیں بلا کر کہا کہ یہ سامان اٹھا کر میرے ساتھ چلو ————— حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا سامان اٹھانے میں کچھ بھی عار محسوس نہیں کی ————— سامان اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں ————— چند افراد نے آگے بڑھ کر کہا، جناب گورنر! ہم یہ سامان اٹھا لیتے ہیں۔

سلمان کے مالک نے انہیں گورنر کے لقب کے ساتھ پکارتے ہوئے سنا، تو حیران رہ گیا ————— ایک شخص سے پوچھا، کہ یہ کون ہیں؟ ————— اس نے کہا، کہ یہ گورنر ہیں ————— وہ شخص شرم و حیا سے پانی پانی ہو گیا ————— اس نے شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ————— جناب! میں آپ سے واقف نہیں تھا ————— اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، میرا سامان دے دیجئے!

حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میں تمہارا سامان تمہارے گھر پہنچائے بغیر نہیں دوں گا ————— اور فرمایا کہ میں نے یہ کار خیر تمہیں مقاصد کے

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پیش نظر کیا ہے۔

۱۔۔۔۔۔ تکبر اور غرور میرے قریب نہ آنے پائے

۲۔۔۔۔۔ میں نے ایک مسلمان بھائی کی امداد کی ہے۔

۳۔۔۔۔۔ تم اگر مجھ سے کام نہ لیتے تو مجھ سے کمزور کسی شخص سے کام لیتے

۔۔۔۔۔ اس لیے میں نے مناسب جانا کہ خود ہی یہ کام انجام دے دوں۔

(ایک عربی ڈائری سے ماخوذ)

<http://t.me/Tehqiqat>

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ایک حبشی نژاد مسلمان کی ”پرواز فکر“

زمین و آسمان کے خالق نے انسان کو پیدا کیا — اس کا مقدر بھی لکھ دیا
— دولت مند کو آسودگی ملی — غریب کو فاقہ مستی — ایک
میں تھا — کہ خالق نے مجھے سیاہ رنگت دے دی — دنیا کے کسی
خطے نے مجھے گوارہ نہ کیا — گورے نے مجھے بیڑیاں ڈال دیں —
اور نفرت سے کہا: ”تم کالے ہو — تم غلام ابن غلام ہو —
میرے مویشی چراؤ اور میری زمینوں پر ہل چلاؤ — کہ تم محکوم ہو“
— میں نسل در نسل پتارہا — پھر اچانک عرب کے صحرا سے
— بے آب و گیاہ میدان سے — ایک پیکر رحمت اٹھا —
اس نے ہاتھ پھیلا کر مجھے بلایا اور کہا: ”میری جانب بڑھو — میں
تمہاری زنجیریں توڑنے والا ہوں — تمہیں مبارک ہو — کہ آج
کے بعد — کسی گورے کو تم پر فضیلت نہ ہوگی“ — وہ کون تھا؟
— جس نے مجھے رحمت کی آغوش میں لے لیا — محمد! —
بلال حبشی کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

یہ دراصل انگریزی کی اس نظم کا مفہوم و مطلب ہے جو ہیلی فیکس
(برطانیہ) میں میلاد مصطفیٰ کے جلوس کے اختتام پر ایک بڑے میدان میں
انعقاد پذیر عظیم اجتماع میں ایک حبشی نژاد کالے مسلمان نے پڑھی تھی اور
لطف کی بات یہ ہے کہ اس اجتماع میں انگریز بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔
یہ نثری نظم موجودہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں انشاء اللہ ایک نورانی کرن ثابت
ہوگی۔ ویسے بھی اس کا متن بڑا روح پرور اور دل کش و دل نشیں ہے۔

(روزنامہ نوائے وقت ۲۵ اکتوبر ۱۹۹۱ء)

(مترجم: عطاء المصطفیٰ نبیل قادری)

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اُن کا سایہ اک تجلی، اُن کا نقش پا چراغ
وہ جدھر گزے اُدھر ہی روشنی ہوتی گئی

زندگیاں کا لالہ

ترتیب: مولانا محمد عبدالمجید شرف قادری
تعارف: علامہ عظیم رسول سعیدی
تقدیم: پروفیسر محمد مسعود احمد ایم اے۔ پی ایچ ڈی

ملتِ اسلامیہ کے اُن اکابر زعماء کے مستند حالاتِ زندگی نیز ان کی دینی، علمی، ملکی اور ملی خدمات کا تفصیلی جائزہ جنہوں نے

○ قرآن و حدیث کے اوزار و معارف، تقریر، تدریس اور تصنیف کے ذریعے عوام و خواص تک پہنچائے

● برصغیر میں پرچمِ اسلام بلند رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا

○ دشمنانِ اسلام کی شیطانہ چالوں کو ناکام بنایا

● اپنے علم و عمل سے عشقِ مصطفیٰ کے چراغِ روشن کیے

○ ناموسِ مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر زندگیاں وقف کر دیں

● انگریز اور ہندو کی سازشوں کے تار و پود بکھیر دیے

○ قرنگی اور کانگریسی ایجنٹوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا

● گاندھی کے سحرانہ طلسم کو پاش پاش کر دیا

○ دو قومی نظریہ کو پروان چڑھایا اور قیامِ پاکستان میں جماعتی طور پر مسلم لیگ سے بھرپور تعاون کیا

● جہادِ کشمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا

○ قادیانیت کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے تحریکِ ختمِ نبوت کی قیادت فرمائی اور قید و بند کی صعوبتوں

کے سعادت سمجھتے ہوئے خندہ پیشانی سے قبول کیا۔

خطہٴ پاک سے تعلق رکھنے والے ایسے یونے دو صدیہ علماء و مشائخ کے رُوح پرور تاریخی حالات جو نہ

صرف موجودہ دور میں مینارۂ نور کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی شعلِ راہ ثابت ہوں گے۔

اعلیٰ کنگاخذ ○ خوبصورت کتابت ○ آفسٹ طباعت

ڈاٹی دار اور دلکش جلد ○ صفحات : ۵۹۲ ○ قیمت ۹۰ روپے

ملنے کا پناہ مکتبہٴ قادریہ ○ جامعہٴ اسلامیہ رضویہ ○ اندرونِ ہاری ازلہ ہو

احسان الہی ظہیر کی کتاب البریلویہ
کا

حقیقتِ ایمان میں اور فقید کی بارگاہ

تالیف: محمد عبد الحکیم فوق قادری نقشبندی
تقدیم: پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید احمد مدظلہ
پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج، سکڑ

قیمت ۰/۲۰

رَضَائِدُ اِلَّا شَاكٌ لَا هُوَ

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>